

الصَّحِيفَةُ الصَّحِيفَةُ

صَحِيفَةٌ

هَمَامُ بْنُ مَنْبَلٍ

دَاكْرُ طَهْمَانِيُّ اللَّهِ

ناشر: رشید اللہ یعقوب

مکان نمبر ۸ - زمزمه اسٹریٹ نمبر ۳ - زمزمه - کلفشن
کراچی ۵۶۰۰۷ پاکستان

۱۹۷۴ء
۰۷۴۲۸

الصَّحِيفَةُ الصَّحِيفَةُ الصَّحِيفَةُ الصَّحِيفَةُ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنے شاگرد ابو عقبہ حام بن منبہ
ابن کامل بن شیخ الیمانی الصنعتی الایبادی کے لیے مرتب کیا ہوا

الصَّحِيفَةُ الصَّحِيفَةُ

مُؤْمِنٌ بِهِ

صَحِيفَةُ
الْمَاهِرِ مِنْبَرٍ

ڈاکٹر محمد حمید اللہ

ناشر: رشید اللہ یعقوب

مکان نمبر ۸ - زمزمه اسٹریٹ نمبر ۳ - زمزمه - کافشن

کراچی ۵۶۰۰۷ پاکستان



DYAL SINGH TRUST LIBRARY

بسم الله الرحمن الرحيم
سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم
اللهم صل على محمد كلما ذكره الذكر و كلما غفل عن ذكره الغافلون

قرآن کریم اللہ جل جلالہ کے احکامات کا مجموعہ ہے اور حدیث نبوی قرآن پاک کی عملی تفسیر اور اسلامی قوانین کا دوسرا اہم مصدر و مأخذ ہے۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔


یا يَهُمُّ الَّذِينَ آمَنُوا
أطْبَعُوا اللَّهَ وَاطْبَعُوا
الرَّسُولَ وَأوْلَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرْدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ أَحْسَنُ
رَجْوًِكُمْ وَيَهُمْ بِأَنَّهُمْ
مَا لَهُمْ بِأَنْ يَحْمِلُوا (النساء - ٥٩)

اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے اپنی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم فرمایا ہے۔ اسی لیے ابتداء اسلام سے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات تقدیم فرماتے تھے اور ان کی عادات و سکنات کو یاد رکھتے تھے اور اس پر عمل پیرا بھی رہتے تھے۔

اصحینہ الصحیفہ موسم پر صحیفہ حمام مکن نمبر ۲۵۸ سے پہلے کی تالیف ہے اور تدوین حدیث اور ان کی صحیت کے تعلق سے ایک اہم کتاب ہے۔ اس کے مطالعہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے کتنی کوشش کی اور اس بات کا مکمل ابہام کیا کہ وہ اپنی اصل میں آئندہ نسلوں تک پہنچ جائیں۔

یہ کتاب بلا قیمت بطور ہدیہ تقسیم کی جا رہی ہے اور اس کی فروخت کی ممانعت ہے۔

طبع الاول طبع الاول
جديد ایڈیشن تحقیق
دوہزار تعداد
ناشر کاغذ
اہتمام طباعت انتہمیہ یا کمونی کیشن کراچی
رشید اللہ یعقوب مکان نمبر ۸ زمزمه اسٹریٹ ۳
کلفشن۔ کراچی، پوسٹ کوڈ ۷۵۴۰۰
جناح ڈاکٹر محمد حمید الشیرازی خلیل العالی
۱۹۹۸ء / ۱۹۷۱ھ ۱۹۸۳ء / ۱۹۷۳ھ
۱2۹۳۴۸ / ۲۹۷۵۲۸



R/16/2

نذرانہ عقیدت

بکشور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا
واسطے دے کر اللہ رب العالمین سے جو ماں گا سو پایا
جن کے طفیل اللہ جل جلالہ نے اس گناہ کا رکوا پنے
فضل و کرم سے بے حد و حساب نوازا۔

رشید اللہ یعقوب

میں نہ عالم ہوں نہ ہی علیمت کا دعویٰ ہے اس لیے اس صحیفہ پر کچھ کہنا مجھے زیب
نہیں دیتا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ جناب محمد حبیب الدین صاحب کے لکھے ہوئے "حروف آغاز"
اور محترم و کرم ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب کے تحریر کردہ دیباچہ "حدیث نبوی کی تدوین و
حافظات" کے مطالعہ سے ہی ہو سکے گا کہ محدثین کرام نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کی حافظات کے لیے اور انکی تحقیق کے کتنے بہترین اصول وضع کیے اور پھر اس پر خلوص
نیت سے عمل کیا۔

اس کتاب کی علم حدیث میں اہمیت کے پیش نظر مجھے خیال ہوا کہ اس کو جدید
طباعت میں چھپوا کر ملک و بیر و ملک کی یونیورسٹی، کالج، اسکول، دینی مدارس اور لاہور یونی
میں بلاہدیہ خدمت کے جذبے سے تقسیم کروادی جائے تاکہ عوام الناس خصوصاً طالب علم
علماء کرام، اہل دلنش اور محقق حضرات اس سے مستفیض ہوں اور مکرین حدیث بھی اس سے
رہنمائی حاصل کریں اور اپنی سوچ کی اصلاح کریں۔

یہ صحیفہ ۱۹۵۴ء میں حیدر آباد کن سے شائع ہوا تھا۔ اس کے کچھ ایڈیشن محترم
ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب کے علم و اطلاع کے بغیر بھی شائع ہوئے۔ چونکہ یہ کاروباری کائنات نظر
سے شائع ہوئے تھے اس لیے ان کا معیار طباعت جاذب نظر نہیں تھا اور غالباً اسی لیے یہ
تمایت اہم کتاب زیادہ لوگوں کے استفادہ میں نہ آگئی۔

میں نے گزر شست سال ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب سے رابطہ قائم کیا اور اس خواہش کا
انعام کیا کہ میں اس اہم کتاب کی عمدہ طباعت کروادے کے صدقہ جاریہ کے طور پر تقسیم کرنا چاہتا
ہوں اگر وہ اس کی اجازت مرحت فرمائیں۔ انہوں نے ازراہ عنایت اس کی طباعت و اشاعت
کی اجازت دیئی۔ اس اجازت ہام کی کامی آخری صحیفہ پر شائع کی جا رہی ہے۔

یہ محض اللہ غفور رحمیم کا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھے اس کام کی توفیق دی اور
اس کے لیے وسائل عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میری اس خدمت کو قبول فرمائے اور
ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب، میرے والدین، مسلمان و مومن مرداور عورتوں پر اور مجھ پر رحم
فرمائے۔ آمین

احقر العیاد

رشید اللہ یعقوب

کراچی - پاکستان

۰۹ جنوری ۱۹۹۸ء، ۱۵ جولائی ۱۹۹۸ء


۲۰	ا۔ (الف) تحریری دستور شہری مملکت مدینہ
۲۲	(ب) مردم شہری کے ریکارڈ
	(ج) رسول اللہ کے فرائیں مبارک قیصر و کسری، مقوس و نجاشی وغیرہ
۲۳	کے نام
۲۴	مکتب نبوی ہنام نجاشی کا عکس
۲۶	یہودیوں کے نام مراسلے
۲۶	حضرت زید بن ثابت
۲۷	(ھ) اگور نزوں، قاضیوں (حاکمان عدالت) اور تحصیلداروں وغیرہ کو تحریری ہدایتیں
۲۸	مویشیوں کی زکات، زراعت اور معدنیات کے محصول کی شرحیں، تحریری شکل میں
۲۹	۲۔ کتابت کی بعض اتفاقی صورتیں
	رسول اللہ ﷺ کے حکم سے ایک یمنی ابو شاذنا کو خطبہ کا تحریری شکل میں لکھ کر دیا جانا
۳۰	۳۔ عبد نبوی میں اہتمام کے ساتھ حدیث کی تدوین
۳۱	ا۔ (الف) ایک انصاری کو احادیث لکھنے کی اجازت
۳۲	(ب) حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ کو احادیث لکھنے کی اجازت
۳۳	الحییۃ الصادقة
۳۴	(ج) حضرت ابو رافع مصری کو احادیث لکھنے کی اجازت
۳۵	(د) حضرت انسؓ کا مجموع احادیث
۳۶	۴۔ ایک صحابی (عمرو بن حزمؓ) کی تالیف
۳۷	(ب) عبد صحابہ میں عام تدوین حدیث
۳۸	(الف) حضرت جابر بن عبد اللہؓ
۳۹	صحیفہ جابرؓ
۴۰	(ب) ام المؤمنین حضرت عائشہؓ
۴۱	عمرو بن زیبرؓ کا حضرت عائشہؓ کی احادیث کو لکھنا

فہرست مضمایں صحیفہ ہمام ابن منبہ

عنوان	صفحہ
پیش لفظ طبع رائی	۷
محض حالات زندگی جناب ڈاکٹر حمید اللہ صاحب دامت برکاتہم	۹
حرف آغاز از پر نسل محمد حمید الدین ایم۔ اے	۱۱
پیش لفظ طبع ثالث جناب ڈاکٹر حمید اللہ صاحب دامت برکاتہم	۲۳
دیباچہ حدیث نبوی کی تدوین و حفاظت	۲۵
۱۔ تمہید	۲۵
۲۔ ائمہ عرب	۲۶
عبد اسلام میں عربوں کی تیزگام علمی ترقی	۲۸
(۱) پیغمبر اسلام کی تلقینی سیاست	۳۱
۱۔ لکھنے پڑھنے کی عام ترتیب کا انتظام	۳۲
صفیہؓ کی درس گاہ	۳۲
دار القرآن	۳۳
۲۔ تعلیم بالغان کا انتظام	۳۵
معاذ ابن جبلؓ	۳۶
۳۔ ناظر تعلیمات یمن و حضرموت	۳۷
تعلیم نسوان کا انتظام	۳۷
ام المؤمنین حضرت عائشہؓ	۳۸
ام المؤمنین حضرت حفظہؓ	۳۸
حضرت شفاقت عبد اللہ وغیرہا	۴۰
(۲) تدوین حدیث	۴۰
(الف) عبد نبوی میں سرکاری طور پر لکھی ہوئی حدیثیں	۴۰

۸۵	۳۔ منظوظوں کی کیفیت.....
۸۵	(۱) منظوظ بر لین.....
۸۷	(۲) منظوظ و مشق.....
۹۲	منظوظ و مشق کے آخری صفحہ کا فٹو.....
۹۱	(۳) (صحیفہ ہمام بن منبه) (عربی متن مع اردو ترجمہ).....
۱۶۵	(۴) اختلاف الروایات.....
۱۷۳	(۵) منظوظ و مشق اور منظوظ بر لین کی ساعتیں (عربی متن مع اردو ترجمہ) ...
۱۷۵	۱۔ منظوظ و مشق کی ساعتیں.....
۱۹۰	۲۔ منظوظ بر لین کی ساعتیں.....
۱۹۲	(۶) بازیار.....
۱۹۳	(الف) کتابت احادیث سے متعلق مزید معلومات.....
۱۹۳	(ب) حضرت سلمان فارسی.....
	حضرت سلمان فارسی کا رسول اللہ ﷺ کے حکم سے قرآن مجید کی سورتوں کا فارسی میں ترجمہ کرتا.....
۱۹۳	(ج) عبد رسالت کے عہد وار جو کتابت کا کام انجام دیتے تھے.....
۱۹۴	(د) حضرت کعب بن مالک.....
۱۹۴	(ه) حضرت حاطب بن ابی بلتعہ.....
۱۹۷	(و) حضرت عبد اللہ بن عمر.....
۱۹۷	(ز) حضرت عمر بن الخطاب.....
۱۹۷	حضرت فاطمہ بنت الخطاب.....
۱۹۷	حضرت سعید بن زید.....
۱۹۸	حضرت خباب بن الارت.....
۲۰۲	(ج) محمد بن راشد.....
۲۰۳	صحیفہ محمد بن راشد.....

۵۶	عمروہ بنت عبد الرحمن اور قاسم بن محمد کے ذخیرہ احادیث کا عمر بن عبد العزیز کے حکم سے قلمبند کیا جانا.....
۵۶	عمر بن عبد العزیز کے حکم سے احادیث کے ذخیروں کا جمع کیا جانا.....
۵۷	(ج) حضرت ابو بکر صدیق.....
۵۸	حضرت ابو بکر کا ذخیرہ احادیث.....
۵۸	(ر) حضرت عمر فاروق.....
۵۹	(ھ) حضرت علی کرم اللہ وجہہ.....
۶۱	صحیفہ علی.....
۶۳	(ھا) حضرت عبد اللہ بن اونی.....
۶۳	(و) حضرت سکرہ بن جنڈب.....
۶۳	رسالہ سکرہ بن جنڈب.....
۶۳	(ز) حضرت سعد بن عبادۃ النصاری.....
۶۴	صحیفہ سعد بن عبادۃ.....
۶۴	(ح) حضرت عبد اللہ بن عمر.....
۶۵	(ط) حضرت عبد اللہ بن عباس.....
۶۵	حضرت عبد اللہ بن عباس کی تائیفیں.....
۶۶	(ی) حضرت عبد اللہ بن مسعود.....
۶۶	(یا) تالیف حضرت سعد بن رفیع.....
۶۶	(ک) حضرت مغیرہ بن شعبہ.....
۶۶	حضرت معاویہ.....
۶۶	(ل) حضرت ابو بکر.....
۶۷	(م) حضرت ابو هریرہ.....
۶۰	اصحیفۃ الصحیفۃ.....
۶۳	(ن) ہمام بن منبه
۶۵	ا۔ صحیفہ ہمام کا تحفظ.....
۶۷	۲۔ استاد.....



پیش لفظ طبع رابع

صحیفہ ہمام بن منبه ۱۹۵۳ء میں عربی میں شائع ہوئی تھی۔ اس کا اردو ترجمہ تیسرا مرتبہ ۱۹۵۶ء میں حیدر آباد کن سے طبع ہوا اس کے کمی ایڈیشن انگریزی، فرانچ اور ترکی میں شائع ہوئے۔ اور پچھے ایڈیشن بغیر علم و اطلاع بھی شائع ہوئے۔ اب اس کتاب کا انگریزی جدید ایڈیشن آسکفورد سینٹر فار اسلامک استریز طبع کر رہے ہیں۔

محترم رشید اللہ یعقوب صاحب اپنی طرف سے خواہش مندوں کے لئے بلاہدیہ شائع فرمائے ہیں۔ اللہ انہیں جزاۓ خیر دے۔ آمین۔

محمد حمید اللہ
۳/ ذی قعدہ ۱۴۱۸ء



مختصر حالات زندگی جناب ڈاکٹر حمید اللہ صاحب دامت برکاتہم

ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب ۱۲، محرم ۱۳۲۶ھ کوچہ حبیب علی شاہ صاحب کلل منڈی حیدر آباد کن میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق جنوبی ہند کے مشہور عربی خاندان نواٹھ سے ہے جو ہندوستان کے مغربی ساحل کو اپنا وطن بنایا تھا۔ جو اپنی دینی اور علمی سرگرمیوں کی وجہ سے مشہور و معروف ہے۔ آپ کے اجداد کے ملک کے مطابق حمید اللہ صاحب بھی شافعی ملک کے ہیرو ہیں۔

ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب کے دادا قاضی محمد صبغۃ اللہ بدر الدولہ ۱۳۱۱ھ۔ ۱۳۲۰ھ) اپنے اجداد کی طرح جید عالم دین تھے جنوبی ہند میں اردو (ہندوی) کے پہلے نشر نگارمانے جاتے ہیں۔ آپ نے بے شمار کتابیں لکھیں جن میں سیرت نبوی کی مشہور تصنیف ”فوانید بدریہ“ ہے جو مقبول عام ہے۔

ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب کے والد ابو محمد خلیل اللہ صاحب ۱۳۱۲ھ۔ ۱۳۲۳ھ مددگار معتمد مال حکومت نظام حیدر آباد تھے۔ آپ نے بھی کئی کتابیں تصنیف کیں۔

ڈاکٹر صاحب کے برادر محمد صبغۃ اللہ صاحب اور محمد حبیب اللہ صاحب بھی مشہور و معروف شخصیتیں تھیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب سے حاصل کی پھر مدرسہ دارالعلوم میں داخلہ لیا۔ سال بھر جامعہ نظامیہ میں

تعلیم حاصل کی۔ انگریزی کا امتحان کامیاب کر کے جامعہ عنانیہ میں انٹر میڈیسٹ میں داخلہ لیا۔ بی۔ اے کے بعد ایم۔ اے اور ایل۔ ایل۔ بی کی ڈگری ساتھ ساتھ حاصل کی۔ Ph.D کے لئے عنانیہ میں داخلہ لیا لیکن یونیورسٹی کی اجازت سے جامعہ بون جرم میں مقالہ داخل کیا اور ۱۹۳۵ء میں ڈی فل کی ڈگری حاصل کی ۱۹۳۷ء میں جامعہ سور بون فرانس سے ڈی لٹ کی ڈگری بھی حاصل کی۔ یورپ سے واپسی پر جامعہ عنانیہ میں لکھر رہے۔ بعد میں فرانس کے (Centre National de la Recherche Scientifique) میں کام کرتے ہوئے کئی ملکوں کی جامعات میں لکھر دیتے ہوئے اپنی علمی و مذہبی تحقیقی مصروفیات کو جاری رکھا۔ تصنیف و تالیف تراجم اور تحقیق ان کا موضوع تھے۔ ۱۷۵۷ء کتابیں اور ایک ہزار سے زائد مقالات اتنک طبع ہو چکے ہیں اور کئی مقالات غیر مطبوعہ بھی باقی ہیں جن میں انگریزی اور جرم تراجم قرآن بھی طباعت سے آرائتے نہیں ہوئے۔ مطبوعہ کتابوں میں سب سے معروکة الاراء فرانسیسی ترجمہ قرآن حکیم کا ۲۰۰۰ وال اور سیرت النبی ﷺ فرانسیسی کا پانچواں ایڈیشن زیر طبع ہے۔ ان کے علاوہ الوثائق السیاسیہ اور حیفہ ہمام بن منبہ، رسول اکرم کی سیاسی زندگی، قانون میں الامالک، انٹرودکشن ٹو اسلام وغیرہ۔

یہ ساری کتابیں دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو کر مقبول عام ہوئی ہیں۔ اور اسلام کے مختلف پہلو مغربی مفکروں اور عالم اسلام کے محققین کے لئے مشغول راہ بنے ہوئے ہیں۔

احمد عطاء اللہ



حرف آغاز

حدیث نبوی ﷺ کی نسبت جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں اور جو مفروضے باندھے جا رہے ہیں وہ دور جدید کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ہمارے بعض بھائی اس سوء نہیں میں بتتا ہیں کہ ریسرچ کا آغاز بھی انہی کے ساتھ اس صدی میں جنم لیا ہے اور دریافت و تحقیق کے جو طریقے علایے ساف نے اختیار کئے تھے اور جن پر عمل آوری کے دوران میں انہوں نے اپنی عمریں یا کم از کم سال ہاسال گزار دیئے وہ حقیقی ریسرچ نہیں ہے۔

یہ صحیح ہے کہ قدماء کی تحقیقی کاتا نام ریسرچ نہ تھا لیکن دریافت و تحقیق کا جو مکمل طریقہ انہوں نے اختیار کیا تھا وہ برائے نام ریسرچ سے بہت بالاتر و افضل تر تھا اور اس زمانہ کے عام حالات کے مد نظر جو کام ہوا اس کا موجودہ زمانہ کی سہولتوں سے مقابلہ کیا جائے تو وہ یقیناً حیرت ناک بھی تھا۔

اگر بعض یونیورسٹیوں کا موجودہ ریسرچ زیادہ تر یہی ہو کہ مختلف کتابوں سے مواد جمع کیا جا کر ایک جدید تالیف تیار کر لی جائے تو ایسا ریسرچ نہ کیا جانا ہی بہتر ہے۔ جب تک کھرے اور کھوئے میں تمیز، بیان کرنے والے کی علمی حیثیت اور اس کا

اخلاقی معیار دریافت نہ ہو، حوالہ کا حوالہ، مأخذ کا مأخذ، سرچشمہ کا سرچشمہ معلوم نہ کیا جائے اور سلسلہ بہ سلسلہ معیار کے برقرار رکھے جانے کا طینان نہ کر لیا جائے تو جو مواد جمع ہو گا وہ بڑی حد تک ناقابل اعتبار ہی ہو گا۔ واقعہ یہ ہے کہ مقابلہ و تطیق، نتائج کا اخذ کرنا اور جدید حالات کی دریافت عمل میں لانا وغیرہ ریسرچ کے اصلی مقاصد ہیں۔ لیکن جب ذاتی غرض یا قومی پروپگنڈا، شخصی مذہب یا کسی نہ کسی "ازم" کا پرچار پیش نظر رہے یا خود نمائی یا حصول زر مقصود کار ہو تو ایسی تالیف کو تحقیق کا نام دینا، اصلاً علم کی تحقیق کرنا ہے۔

میں اپنے فاضل بھائیوں کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اولاً اغیار نے اسلام کو صریحًا غلط طور پر پیش کر کے اس کی بد ناتی کے درپے ہوئے اور اب جب صحیح حالات کا اکشاف ہوتا جا رہا ہے تو پیروں وار کے بجائے اندر ورنی طور پر افتراق کی صورتیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ اولاً قرآن مجید کو انسانی تحریر بتلانے کی کوشش کی گئی اور اس کے مضامین کا غلط طور پر ترجمہ کیا گیا۔ اس کے برخلاف غلط تصریحات کئے گئے لیکن اس کے باوجود جب حقیقت ظاہر ہونے لگی کہ جس صحیفہ کا ایک حرф آج تک نہیں بدلا اور جو احکام و مضامین کے اعتبار سے آج کل کے "ترقی یافتہ" قوانین سے بھی ہر طرح بالاتر ہے تو اب حدیث کی جانب توجہ منعطف ہونے لگی اور اس کے مضامین کے غلط ہونے اور اس میں تحریفات وغیرہ ہونے کا دعا آغاز کیا گیا تاکہ ایک مجاز پر ما یوسی کے بعد وسر ا مجاز کھولا جائے اور فی الجملہ مذہب اسلام کو مطعون کرنے کی سعی کی جائے، افسوس اس کا ہے کہ اس پروپگنڈے کا شکار اور ایسے الزمات کے تراشے میں ہمارے ہی بعض حضرات پیش پیش ہیں۔

اس تحریر کا مقصد یہ ہے کہ اگر ملک کے ذی فہم اور قابل افراد بخاری، مسلم،

موطا وغیرہ، پر نکتہ چینی کرنے کے بجائے اپنے وقت کو اس کو شش میں صرف کریں کہ قرآنی احکامات اور جو صحیح حدیثیں ہیں ان سے موزوں حدیثیں اخذ کر کے مسائل حاضرہ کا حل دریافت کریں تو ایسے مسامی یقیناً سب کیلئے فائدہ مند اور خود ان کے لئے موجب برکت ہوں گے اور اس سے ملت کی خدمت ہو گی، دنیا کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ قرآن و حدیث کو اس زمانے کے اعتبار سے بھی کتنا بلند مقام حاصل ہے۔

سنت رسول اللہ ﷺ کی نسبت جو قیاس آرائیاں حالیہ دور میں ہو رہی ہیں وہ زیادہ تر مغربیت کی شان لی ہوئی ہیں۔ مغربیت کا کارنامہ اس صدی میں تغیری کم اور تحریکی زیادہ رہا ہے، علم کا استعمال انسان سازی کے لئے ہونا چاہئے تھا لیکن اس کا رخ انسانیت سوزی کی جانب پھیر دیا گیا ہے۔ اچھی سے اچھی طاقتیوں کو، فطرت کی قوانینیوں کو، قدرت کے رازوں کو جو تھوڑا بہت سمجھا گیا ہے تو انسانی دماغ اولاد ان سے برہادی کے سامان پیدا کرنے کی طرف رہو ہے۔ قدرت کی ایک معمولی شے ایٹم ہے۔ ہزار ہا سال بعد انسان کو معلوم ہوا کہ اس کم ترین جزو مادہ میں عظیم تر قوانینی بھی موجود ہے اور فوراً یہی اس کو خود اپنی تباہی کا ذریعہ ہاتا یا۔ یہ ہے ریسرچ کی ستم ظریفی، ایسے ریسرچ سے توجہات بہتر ہے۔

انسانی وجود کے لئے توازن ضروری ہے جہاں محض مادی ترقی ہو تو وہ زیادہ تر مضر اثرات ہی کی حامل ہو گی، اور انسانی دماغ کو پستی کی جانب رجوع کرے گی۔ اگر انسان اس کا انتظام نہ کرے کہ مادہ کے ساتھ ساتھ روحانی ارتقاء بھی ہو تو انسانی ذہن کی پرورش یک طرفہ ہو گی اور جب کوئی چیز یک طرفہ ترقی پاتی ہے تو دماغی توازن برقرار نہیں رہے گا اور آخر کار مجنونانہ افعال سرزد ہونے لگیں گے۔

یہی وجہ ہے کہ آج کے حقیقی سائنس داں اور محقق مثلاً البرٹ آئنشتائین اور

برڑندر سل وغیرہ بار بار توجہ دلارے ہے ہیں کہ مادہ کی ترقی جو ہوئی تھی ہوئی اب اس کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے زیادہ حقیقی انسانیت و اخلاق کی تعلیم و تربیت ہونی چاہئے ورنہ بر بادی لازم آجائے گی۔

کسی بڑی چیز کا حاصل ہو جانا فیض خداوندی کا نتیجہ ہے لیکن اس کا سمجھنا، اس کے حقائق کو دریافت کرنا، اس کی تفصیلات اور اطلاعات سے مطلع ہونا اور عمل آوری کے طریقے معلوم کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ قدرت الہی پر ایمان لانا، علم کے ساتھ عمل، عمل کے لئے اس کے طریقے، موقع اور محل کی مناسبت سے علم کا اطلاق، یہ وہ ضروریات ہیں جن کے بغیر زندگی کا حقیقی مقام متعین نہیں کیا جاسکتا۔

قرآن مجید صحیفہ ربیٰ ہے جو تمام انسانوں اور ہر زمانہ کے لئے نازل فرمایا گیا ہے۔ یہ ایک عام قانون ہے جو دو ای طور پر نافذ ہے لیکن ہر عام قانون کے خاص قواعد ہوتے ہیں، مجمل احکام کے نفاذ کے لئے خصوصی اشکال کا تعین کرنا لازمات میں سے ہے۔ یہ کہنا بے جانہ ہو گا کہ موجودہ حالت میں کسی سابقہ پیغمبر کا صحیفہ اصلاً موجود نہیں ہے۔ جو بھی باقیات ہیں وہ محض قواعد یا تشریحات کی نویت رکھتی ہیں، ایسا ہوتا ضروری بھی تھا کہ ایک صحیفہ ربیٰ یعنی قرآن مجید کے نازل ہوتے ہوئے سابقہ صحیفوں کا اصلاح برقرار کھانا خلاف مصلحت تھا۔

ساتھ ہی ساتھ اس آخری مختتم اور مکمل صحیفہ ربیٰ کی تشریح اور اس کے قواعد کی تدوین بھی لازمی تھی ورنہ ہر شخص اپنی استعداد اور ہر زمانہ اپنے رنگ کے لحاظ سے ایسا عمل کرتا جن سے یک جہتی مفقود اور دنیا کا صحیح طور پر ارتقاء پانा ممکن ہو جاتا، اسی وجہ سے قرآنی احکام کی توضیح و تشریح لازم آئی۔ ظاہر ہے کہ اس کے لئے وہی عظیم ہستی موزوں ہو سکتی تھی جس کو خود خداوند تعالیٰ نے نزول قرآن کے لئے منتخب

فرمایا تھا۔

کتنی عجیب بات ہے کہ قرآن پہنچانے والے کے ہر قرآنی لفظ کو تو من و عن تسلیم کر لیا جاتا ہے اور یہی ایمان کا تقاضہ ہے لیکن وہ جو اپنے آپ کو "اہل قرآن" بتلاتے ہیں اسی پہنچانے والے کی تشریح و توضیح کو تسلیم کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ ایسا گریز یا تو اس وجہ سے ہو گا کہ معاذ اللہ اس عظیم تر ہستی پر اطمینان نہیں، یا یہ کہ جیسا عام طور پر کہا جاتا ہے یہ اختال ہے کو جو تشریح اس بزرگ ہستی نے فرمائی وہ ہم تک حقیقتاً من و عن نہیں پہنچی۔ لیکن اسی بے اطمینانی کا کوئی معقول سبب بھی ہونا چاہئے۔ ذیل میں چند وجوہ بتلاتے جاتے ہیں جو موجودہ زمانہ کے محققین عموماً پیش کرتے ہیں۔

(۱) اولاً یہ کہ جن بزرگوں نے حدیث کی تدوین فرمائی وہ ریسرچ کے اصول سے واقف نہ تھے اس مفروضہ پر آج کل کے چند اشخاص جو قرآن اور عربی علوم سے عام طور پر اور علم حدیث سے خاص طور پر کماحتہ واقف نہیں ہیں یہ تجویز کر رہے ہیں کہ حدیث کی تحقیق از سر نوجدید طریقوں پر کی جانی چاہئے۔

جدید طریقے کیا ہیں اور قدیم طریقے کیا تھے؟ قدیم طریقے کس طرح ناقص تھے اور جدید تجویز کس حیثیت سے بہتر ثابت ہوں گے اولان کی صراحت ہو جائے تو مناسب ہے تاکہ کوئی صحیح اندازہ کیا جاسکے۔ مناسب ہو گا کہ وہ تفصیل سے ظاہر کریں کہ

(۱) سابق میں علماء تدوین حدیث کے جن طریقوں پر شدت سے کار بند رہے وہ کیا تھے؟

(۲) قدیم طریقوں میں کیا خامیاں ہیں؟

(۳) موجودہ طریقہ کارکیا ہو گا؟

مجھے یقین ہے کہ اگر یہ اصحاب صرف (۱) ہی کی تحقیق کر لیں اور علم رجال وغیرہ کی تفصیلات سے کما حقہ، واقع ہو جائیں تو خود ان پر واضح ہو جائے گا کہ تحقیق تکمیل تھی۔

(۲) دوسرے اعتراض یہ ہے کہ چونکہ حدیث کی تحریر و تدوین خود حضور اکرم ﷺ کے زمانہ میں نہیں ہوئی اس وجہ سے اس کی نسبت وثوق نہیں۔

عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دوسری تیسرا صدی ہجری میں تدوین حدیث کے کام کا آغاز ہوا۔ لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ حدیث نبوی ﷺ کو اکثر ویژہتر آں حضرت ﷺ کے زمانہ ہی میں لکھ لیا گیا تھا بلکہ ایک حد تک اس کی تدوین بھی ہو چکی تھی۔

اسی اصول کے تحت خلافے راشدین نے بھی اس خصوصی میں گراں مایہ کام انجام دیا تھا گوچند و جوہ کی بناء پر انہوں نے اپنے مسامی کو ملتی کر دیا تھا۔ ایک اہم وجہ ان کے اس طرح کے عمل کی یہ تھی کہ قرآن کریم کا کام چونکہ ابھی ابھی مکمل ہوا تھا، اسی حالت میں اختہاں تھا کہ لوگ خلط بحث کریں اور کوئی نامناسب پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں۔

بہر حال صحابہ کرام رسول اللہ ﷺ سے مجتماعاً اور متفرقانہ دونوں طریقوں سے حدیث کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ آپ سے بعض حدیثوں کو صحابہ کا ایک بہت بڑا گروہ اخذ کرتا تھا چنانچہ اکثر عملی حدیثیں جن میں نماز، زکوٰۃ، حج، وراثت، وغیرہ کے احکام کی تشریع کی گئی ہے اسی قسم کی ہیں۔ قرآن مجید کے مطلب کو رسول اللہ کبھی صرف قول سے کبھی صرف فعل سے اور کبھی ایک ساتھ قول و فعل دونوں کے ذریعہ

سے بیان فرمایا کرتے تھے مثلاً آپ نے نماز ادا فرمائی اور فرمایا:

(صَلَّوْ كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصْلَلُ)

اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔

آپ ﷺ نے حج ادا کیا اور فرمایا:

(خُذُوا عَنِّي مَنَا سِكْكُمْ)

مجھے سے اپنے حج کے مناسک سیکھو۔

اس لحاظ سے رسول کریم ﷺ کی حیثیت قرآن کے شارح کی ہے، آپ قرآن مجید کی جمل آیتوں کی تشریع کرتے تھے، اس کی مطلق آیتوں کو مقید فرماتے تھے اور اس کی مشکل آیتوں کی تفسیر کرتے تھے اور اس حیثیت سے حدیث میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے مفہوم پر قرآن مجید نے اجمال سے یا تفصیل سے دلالت نہ کی ہو، البتہ اس دلالت کے مختلف طریقے ہیں:

(۱) عام صورت یہ ہے کہ قرآن مجید نے رسول اللہ ﷺ کی پیروی کو واجب التعمیل قرار دیا ہے مثلاً۔

﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْهَوْهَا﴾

(ن ۲۸ سورہ حشر)

جو کچھ رسول تمہیں دیں لے لو اور جس بات سے تمہیں منع کریں تم اس سے باز رہو۔

نیز:

﴿فُلْ: إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾

(ن ۱۳ آل عمران ۴۲)

کہ بد تجھے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔
نیز:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾

(ج ۵ سورہ نبیع ۸)

مسلمانوں کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔
اور سب سے بڑھ کر شمع رسالت کے جگمات نور (سراجاً منيراً) سے فیضیاب
ہونے کے لئے صرف یہی ایک بہادیت کافی ہے کہ۔

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

(ج ۱۲۱ سورہ حزاب ۴)

تمہارے لئے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔
قرآن مجید میں اس قسم کی آیتیں دو چار نہیں بلکہ بہ کثرت ہیں۔

(۱) ایک اور صورت یہ ہے کہ احادیث میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وراثت،
ویت، معاشی اور معاشرتی امور وغیرہ کے عملی قواعد ہیں جو قرآن مجید ہی کے احکام کی
نشریخ میں مدون ہوئے ہیں۔

اس کے علاوہ عہد رسالت کے فرائیں مبارک اور سرکاری مراسلے جو محاصل
زکوٰۃ وغیرہ سے متعلق ہیں نیز وہ دعوت نامے جو سرکار دو عالم ﷺ نے مختلف
حکمرانوں یا قبیلے کے سرداروں کے نام روایہ فرمائے تھے وہ سب کے سب احادیث اور
سیرۃ کی کتابوں اور تاریخوں میں محفوظ ہیں، مجملہ ان کے ایک دعوت نامہ کا فوٹو خود
اس کتاب کی زینت بنا ہوا ہے۔ انشاء اللہ آکنہ اشاعت میں مزید دعوت ناموں کے
عکس بھی دیکھ جائیں گے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے احادیث کا ایک کتابچہ مرتب کیا تھا، اسی طرح
عبداللہ بن عمرو بن العاص نے "الصحیفۃ الصادقة" کو ترتیب دیا تھا، صحیفہ جابر بن
عبداللہ، مندابی ہریرہ اور عمرو بن حزم کے جمع کردہ فرائیں رسالت، قیمتی
وستاویزات کا مجموعہ ہیں جو ہمارے تاریخی ریکارڈز ہیں۔ اس سے انکارنا ممکن ہے کہ
اس طرح حفظ حدیث اور یادداشتوں کے تحفظ کا سلسلہ اور تدوین حدیث کا آغاز، عہد
رسالت ہی میں ہو چکا تھا۔

حضرت ابو ہریرہؓ کا درجہ حدیث کے تعلق سے ایک بلند ترین درجہ ہے،
صحابہ کرامؓ میں وہ سب سے زیادہ حافظ الحدیث تھے، انہوں نے نہ صرف حدیث کو
مرتب کیا، تحریر میں لایا اور محفوظ رکھا بلکہ مختلف اجزاء کا اپنے خاص شاگردوں کو اعلاء
بھی کر دیا۔ چنانچہ آپ نے اپنے شاگرد ابو عقبہ ہمام بن منبہ کے لئے ایسا ہی ایک
مجموعہ "الصحیفۃ الصادقة" مرتب کیا تھا۔

خوش قسمتی سے یہ مجموعہ من و عن محفوظ رہا اور اسی کی اشاعت زیر نظر کتاب
ہے۔ جس کو اکثر محمد حمید اللہ، مولوی فاضل، ایم اے، ایل ایل بی، پی ایچ ڈی، ڈی لٹ
نے ایڈٹ کیا اور اس کیساتھ ہی دیباچہ میں تاریخ و تدوین حدیث سے متعلق بیش بہا
تفصیلات بھی بیان کر دی ہیں۔

صحیفہ ہمام بن منبہ، یا اکثر محمد حمید اللہ کی عالمانہ بین الانقوای شخصیت تعارف
کی محتاج نہیں، اتنا سا اشارہ کافی ہے کہ اس قدیم ترین، انمول اور نایاب کتاب کی
اشاعت نے قطعی طور پر ثابت کر دیا کہ یہ جو عام خیال ہے کہ بروقت تدوین حدیث کا
عمل نہیں ہوا صریح اغالط ہے، معلوم نہیں مستقبل میں ایسے ہی پوشیدہ ذخیرہ اکثر محمد
حید اللہ جیسے پر خلوص علماء کی تحقیق سے کتنے اور برآمد ہوں۔ اس وقت یہ ایک مستند

تفسیر کی کتابوں، اسلامی قانون، اسلامی فلسفہ اور تاریخ اسلام و جغرافیہ وغیرہ کی قدیم نایاب کتابوں کو ایڈٹ کرائے اور ممکن ہو تو ساتھ ہی ساتھ ان کے ترجمے اور خلاصے بھی شائع کرے، اسی سلسلہ میں امام مالک کی بے مثل کتاب "الموطا" کا عربی متن کے ساتھ اگریزی زبان میں ترجمہ اور شرح محمد اللہ مکمل ہو چکی ہے۔ امام مالک دیار بنی عطیۃ اللہ کے برگزیدہ محدث اور فقہ کے امام گزرے ہیں اور یوں موطا کا حدیث اور فقہ (اسلامی قانون) کی قدیم ترین کتابوں میں شمار ہوتا ہے جو ایک ساتھ حدیث بھی ہے اور فقہ بھی ہے۔

ملت اسلامیہ کے علمی تعاون اور سرپرستی میں انشاء اللہ ہم ان کتابوں کی اشاعت کے سلسلہ کو مکمل تیزی سے آگے بڑھائیں گے۔

صحیفہ ہمام بن منبہ کی اشاعت کے سلسلہ میں مولوی محمد حبیب اللہ صاحب بی اے نائب ناظم لینڈریکارڈ حیدر آباد کا خاص طور پر سوسائٹی کی جانب سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ ہندی مسلمانوں میں سب سے پہلے صاحب موصوف ہی نے ابتداءً اس کے اردو ترجمہ کی جانب توجہ کی۔ عربی حصے کی طباعت کے سلسلہ میں السید حبیب عبد اللہ الیمنی صدر مصحح دائرۃ المعارف عثمانی یونیورسٹی اور ڈاکٹر محمد یوسف الدین کا شکریہ ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے عربی اور اردو حصے کی طباعت اور تصحیح کے علاوہ صحیفہ ہمام کی حدیثوں کا بخاری اور مسلم سے تخریج احادیث کا کام بھی انجام دیا ہے۔ غرض من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے تحت سوسائٹی ان سب کی بھی مشکروں ممنون ہے کہ جنہوں نے اس کی طباعت میں ہاتھ بٹایا۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔

محترم حیم الدین۔ ایک اے

اشاعت اس ادعا کو غلط ثابت کرنے کیلئے کافی ہے کہ پہلی، دوسری اور تیسرا صدی تک تدوین حدیث کا کام انجام ہی نہیں پایا تھا۔

ابھی حال میں ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے یہ خوش خبری سنائی ہے کہ انقرہ یونیورسٹی ترکی کے کتب خانہ سے ہمام بن منبہ کے شاگرد رشید، معمر بن راشد کا صحیفہ بھی انہوں نے ڈھونڈنے کا لاہے اور اس کو ایڈٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔

معمر بن راشد کے شاگرد اور امام احمد بن حبل کے جلیل القدر استاد عبد الرزاق بن ہمام الصعاعانی الیمنی (۱۲۶-۱۲۱ھ) کے مصنف کو استبول ترکی، یمن، چاز، ہند اور سندھ کے مخطوطوں کی مدد سے خود ہماری مجلس مشاورت کے قابل معتقد ڈاکٹر محمد یوسف الدین ایڈٹ کر رہے ہیں۔ مصنف عبد الرزاق، عبد رسالت اور عبد راشدہ کے آثار پر ایک طرف قدیم ترین کتاب ہے تو دوسری طرف مندادحمد بن حبل، بخاری اور مسلم وغیرہ کے حدیثوں کا اصلی سرچشمہ ہے۔

اس کے علاوہ دوسری اور تیسرا صدی ہجری کی بہت سی ایسی حدیث کی کتابیں ہیں مثلاً مصنف ابن ابی شیبہ اور مند حمیدی وغیرہ جواب تک مظفر عام پر نہیں آئی ہیں، ابن ابی شیبہ، عبد الرزاق بن ہمام کے قریبی زمانہ کے ایک بلند پایہ محدث گزرے ہیں اور ابو بکر عبد اللہ بن الزیر بن عیسیٰ الحمیدی، امام بخاری کے اساتذہ میں سے ایک نامور استاد تھے۔ ایسے نایاب و نادر قدیم بیش بہا حدیث کے ذیرے، دنیا کے مختلف کتب خانوں میں قلمی مخطوطات کی شکل میں موجود ہیں۔

اسلامک پبلیکیشنز سوسائٹی کے پیش نظر یہ امر ہے کہ یکے بعد دیگرے ان انمول ذخیرہ احادیث کی طباعت کا انتظام کرے، پھر صرف حدیث ہی نہیں بلکہ سوسائٹی کی کوشش ہے کہ حدیث کے علاوہ علوم اسلامیہ کے پیش بہا خزانوں، قدیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پیش لفظ طبع ثالث

۱۹۳۳ء میں بریلین میں مجھے زیر اشاعت عربی کتاب کا ایک ناقص مخطوطہ ملا تھا، جس میں دو جگہ ایک ورق ضائع ہو گیا ہے۔ میں نے اسے وہیں اپنے لئے نقل کیا اور تلاش رہی کہ اس نا در روزگار کتاب کا کوئی اور نسخہ مل جائے تو تکمیل بھی ہو اور اشاعت کی طرف توجہ بھی کی جائے۔ پورے بیس سال بعد اللہ نے یہ آرزو پوری کی۔
وله الحمد والمنة۔

دمشق کی عربی اکادمی نے اپنے موقرسہ مانی رسالے "محلہ المجمع العلمی العربی" ۱۹۵۳ء، ۱۴۷۲ھ کے چاروں نمبروں میں اولاد سے بہ اقساط طبع کیا۔ پھر اسے بعض اصلاحوں کے ساتھ الگ کتابی صورت میں بھی شائع کیا۔ عربی میں ہونے کے باوجود ہندی مسلمانوں میں اس نے اتنی مقبولیت حاصل کی کہ یہ میرے بڑے اور محترم بھائی مولانا محمد حبیب اللہ صاحب نے شدید مصروفیتوں اور علالت کے باوجود اس کا ترجمہ فرمایا اور ہوائی ڈاک سے میری نظر ٹالنی کے لئے بھیج ہوئے اردو ایڈیشن کی خواہش کی۔ اس اثناء میں میرے پاس کچھ اور مواد بھی جمع ہو گیا اور ادھر عربی ایڈیشن بھی ختم ہو گیا۔

ان حالات میں مناسب معلوم ہوا کہ اصل عربی کتاب کا ایک نیا ایڈیشن شائع کیا جائے اور دیباچہ کو عصری بنایا جائے، چنانچہ ایک تواصل صحیفہ ہمام شائع کیا جا رہا ہے، دوسرے نہ صرف اس کا پلکہ سابقہ عربی دیباچے کا بھی (ضروری اصلاح و ترمیم کے بعد) اردو ترجمہ جو برادر محترم نے کیا ہے، شامل کیا جا رہا ہے، یہ دیباچہ بتائے گا کہ حدیث نبوی کی تاریخ میں صحیفہ ہمام کو کیا درجہ اور کیا اہمیت حاصل ہے۔

میں بہتوں کامنوں بھی ہوں اور خوشہ چین بھی۔ خاص کر دو کاذک ضروری معلوم ہوتا ہے، ایک تو جامعہ کلکتہ کے پروفیسر محمد زیر صدیقی ہیں۔ مخطوطہ ثانی کا اصل میں انہیں نے پتہ چلایا اور پھر فور ایثار سے اس کی اشاعت کے لئے میرے حق میں دست بردار ہو گئے۔ تدوین حدیث پر آپ کے بعض گراں قدر مقالوں سے بھی میں نے استفادہ کیا ہے۔ دوسرے استاد محترم مولانا مناظر احسن گیلانی مد فیوضہ ہیں۔ بیہاں آنندہ اور اراق میں دیباچے میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ اصل میں اسی آفتاب کی ماہتاب وار ضیا پاٹی ہے۔ جزاهمما اللہ حق الجزاء۔

محمد حمید اللہ

پاریس - فرانس

دیباچہ

حدیث نبوی کی تدوین و حفاظت

تمحید:

اللہ کا پیام اس کے بندوں تک بہت سے پیغمبروں نے پہنچایا مگر بد جخت انسان عموماً برادر کشی کے جذبے میں اس کو نیست و نابود کرتا رہا۔ صحف آدم و شیث و نوح تو بہت دور ہیں، ”صحف ابراہیم“ بھی جن کا قرآن مجید (سورہ ۸۷ آیت ۱۹) میں ذکر ہے، اب کہاں ہیں؟ اسی بد جخت انسان نے تورات موسیٰ کے ساتھ یہ بر تاؤ کیا کہ اس کے سارے نئے تباہ کر دیئے، زبانی یاد سے اس کے کچھ حصوں کا اعادہ ہوا تو کچھ عرصہ بعد ایک مرتبہ اور اسے یہی مصیبت اٹھانی پڑی۔

ہمارے پاس اب تیسرا مرتبہ کا نسخہ ہے^(۱) اور جیسا ہے اس سے سب واقف ہیں۔ تالیف، مشنا اور ہنگادا، وغیرہ کے نام سے یہودی اخبار نے بعد کے زمانوں میں جو چیزیں لکھیں ان کے ”اصر و اغالاں“ (قید و بند) کی شدت سے خداۓ رحمان کو اپنے بندوں پر پھر ترس آیا اور حضرت عیسیٰ پیام محبت و مرحمت لے کر مبعوث ہوئے۔

(۱) تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو: انسانیکو یہی آف بر نایکا عنوان ”بائل“ زیلی سرخی ”اولد سٹرٹ“۔

انسان نے آپ کو تین چار سال بھی چین سے پرچار کا موقع نہ دیا۔ آپ وعظ ضرور کرتے رہے لیکن روپوشنی کی داعیٰ ضرور توں، اور امت کے اجدہ پن سے اس کا موقع کہاں کہ اپنی انجیل کا اعلاء کرتے یا اپنے مواعظ کے قلمبند ہونے کا انتظام کرتے۔ آپ کے اس دنیا سے پرده فرمانے کے بعد آپ کے شاگردوں اور شاگردوں کے شاگردوں وغیرہ نے عرصہ بعد اپنی یادداشتیں مرتب کیں۔ ایسی ہر یادداشت انجیل (یعنی بشارت و خوش خبری) کے نام سے موسم ہوئی، ان انجیلوں کی تعداد بھی کثیر ہو گئی، اور ان کے آپس کے اختلافات بھی شدید ہو گئے تو ان میں سے چار کا کسی نہ کسی طرح انتخاب کیا گیا^(۱)۔ یہ مستند انجیلوں قرآن سے زیادہ حدیث سے مشابہت رکھتی ہیں یعنی صحابہ اور تابعین اپنے نبی کے ملغو نظات کو جمع کرتے ہیں۔ لیکن ان کی قدرو قیمت کی یہاں جانش کا موقع نہیں ہے۔ صرف اس بات کی طرف اشارہ کافی ہو گا کہ ان انجیلوں میں کہیں عقیدہ تسلیت کا ذکر نہیں بلکہ تورات موسیٰ کی توثیق اور وحدائیت رب انبیٰ کی ہی تعلیم ہے، لیکن آج نصرانیت اور تسلیت لازم و ملزم ہو گئے ہیں۔

سنۃ اللہ کے مطابق پھر ایک اور قوم کا کلام رب انبیٰ کی حفاظت کے لئے منتخب ہوا۔ یہ عرب تھے مگر کیسے؟۔

امی عرب:

سامی نسل کے چند قبیلے صحرائی اور ریشمے براعظم عرب میں رہتے تھے۔ کچھ

(۱) تفصیل کے لئے دیکھئے: انسانیکو پیدیا آف بر نایکا عنوان "باہل" ذیلی سرفی "بیوٹھنٹ" میں بتایا گیا ہے کہ "یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ چاروں کب اور کہاں مدون کی گئیں" اسی میں بتایا گیا کہ "انجیل مقتی کو دوسری صدی میں مدون کیا گیا"۔

ساحلی رقبہ کو چھوڑ کر، یہ زیادہ تر خانہ بدش ا لوگ تھے۔ ان کے وطن میں پانی کی کمی کی تھی کہ وسائل تمدن ناپید تھے۔ جس زمانے میں بین الامالک تجارت محض تبادلہ اشیاء پر منحصر ہوا اور عرب میں نہ توزعی اور نہ کوئی اور قدرتی ثروت ہو تو وہاں کے تمدن کی ترقی جتنی ست رہ سکتی ہے، وہ ظاہر ہے۔

چنانچہ علم اور تدوین علم کے سلسلے میں حروف تھجی کے استعمال کی ضرورت تھی، ان کی زبان میں اعراب کو چھوڑ دیں تو اٹھائیں آوازیں، یا حروف صحیح تھی۔ کسی زمانہ میں انہوں نے کہتے ہیں کہ جیرہ (حالیہ کوفہ۔ عراق) والوں سے لکھنا سیکھا۔^(۱) اور ان کے حروف تھجی کو اپنی زبان کے لئے استعمال کیا۔ یہ وہی حروف تھجی ہیں جن میں اب ہم اور عرب ہر دو اپنی زبانیں لکھتے ہیں۔ لیکن اسلام سے پہلے اس خط کی کیا حالت تھی؟ دوسری تمام کوتاہیوں کو چھوڑ بھی دیں تو محض یہ امر کہ اس میں زبر، زیر کا اعراب تو کیا حروف کے نقطے بھی نہ تھے، ابجد ہوز کے اٹھائیں حروف میں سے لفظ کے شروع میں (ب، ت، ث، ن، ی)، (ج، ح، خ)، (د، ذ)، (ر، ز)، (س، ش)، (ص، ض)، (ط، ظ)، (ع، غ)، (ف، ق) میں آپس میں کوئی فرق نہ تھا۔ اور ہر چیز محض انکل پر پڑھی جاتی تھی۔ اس پر عربی زبان کی زرخیزی واقعی روشنی طبع کیا تھی بلائے جائی تھی۔ ایک معمولی مثال لیجئے؟ (قبل) اسے فیل (ہاتھی) پڑھیں، قیل (کہا گیا)، قبل (پہلے) قتل، (جان سے مار ڈالا) یا فتل (رسی بننا)؟ بعض وقت کی جملے میں سیاق و سبق ایک سے زیادہ تبادل صور توں کا امکان رکھتا ہے۔

دوسری مصیبت یہ تھی کہ بدوبیت اور روزگار کی دشواری سے اس کا موقع کہاں تھا کہ لوگ لکھنے پڑھنے کی طرف توجہ کریں؟ اور توجہ کریں بھی تو کیا کھیں، اور

(۱) تفصیل کے لئے بذاری: فتوح البلدان ص ۳۷۳ تا ۳۷۴ ملاحظہ ہو۔

کیا پڑھیں، کہ علمی تحقیق و ترقی کا ملک کوئے موقع ملا تھا۔ اور نہ اس کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ بڑے سے بڑے حضیری مرکز، بستی اور شہر میں بھی، جہاں تجارتی وصول طلب قرضوں کی یادداشت لکھتے ہوں گے، پندرہ میں آدمیوں سے زیادہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ کچھ اندازہ ان مثالوں سے ہو گا:

تقریب لے چکے ہیں جو اٹا (مشرقی عرب، علاقہ الحساء) جیسے بڑے مقام پر رسول اکرم ﷺ نے ایک تبلیغی خط بھیجا تو اوی کہتے ہیں کہ سارے علاقوں اور قبیلے میں ایک شخص بھی نہ تھا جو خط کو پڑھ سکے۔ لوگ تلاش اور انتظار کرتے رہے تا آں کہ ایک بچہ ملا جس نے خط پڑھ کر سنایا۔^(۱) تقریباً اس زمانے یا کچھ بعد کا واقعہ ہے کہ النبیین تولیٰ مسلمان ہوئے یہ ایک بڑے قبیلے کے سردار تھے اور اتنے بڑے شاعر کہ ان کی نظموں کا ایک دیوان تیار ہوا ہے۔ انہیں ان کے قبیلہ عکل (یمن) کا سردار مامور کر کے ایک تحریری پروانہ پار گاہ رسالت سے عطا ہوا۔ بازار میں آکر یہ پوچھنے لگے: کیا آپ لوگوں میں کسی کو پڑھنا آتا ہے؟ یہ خط پڑھ کر مجھے سنائے۔^(۲)

عبدالسلام میں عربوں کی تیز گام علمی ترقی:

اس میں کوئی جیرت کی بات نہیں کہ زمانہ جاہلیت میں باشندگان عرب نے لکھنے پڑھنے اور اپنے معلومات کی مذویں کرنے کی طرف اتنی توجہ نہ کی جتنا اسلام قبول کرنے کے بعد۔ لیکن جیرت اس پر ہوتی ہے کہ ان کی امیت و جاہلیت کے اور ہر قسم کے علوم و فنون سے ان کے والہانہ اعتماد کے درمیان زمانہ اتنا مختصر ہے کہ پرانی تاریخ

(۱) میری کتاب ابو ظافق السیاسیہ (نمبر ۷۷) دیکھئے۔

(۲) ابو ظافق السیاسیہ نمبر ۵۵۔

عالم میں اتنی تیز علمی ترقی کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ کہتے ہیں کہ بعثت نبوی کے وقت شہر کمک میں سولہ سترہ سے زیادہ آدمی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے،^(۱) شہر مدینہ میں تو اس سے بھی کم عرب یہ فن جانتے تھے، لیکن دوسری صدی ہجری ہی سے عربی زبان، علمی نقطہ نظر سے دنیا کی متول ترین زبانوں میں شامل ہو گئی تھی، یہ کیسے ہوا؟

اسلامی حکومت کا آغاز ۶۴۲ھ میں ہوا، جب کہ پیغمبر اسلام ہجرت کر کے مدینہ جا بے۔ مگر اس وقت وہ ایک چھوٹے سے شہر کے بھی صرف چند حصوں پر مشتمل تھی کیونکہ باقی مدینہ، یہودیوں یا تاتحال اسلام نہ لائے ہوئے عربوں کے قبیلے میں تھا۔ اس زمانے میں جزیرہ نماۓ عرب میں سینکڑوں قبیلے کیا تھے کہ حقیقت میں سینکڑوں ہی خود مختار ملکتیں تھیں جن میں ہر ایک دوسرے سے مکمل آزاد تھی۔

۶۴۳ھ کے اوآخر میں، جب مسلمانوں اور مکہ والوں میں صلح ہوئی تو اس وقت تک بھی یہ اسلامی مملکت چند سو مریع میل سے زیادہ رقبے پر مشتمل نہ ہو سکی تھی^(۲) لیکن اس کے بعد پانچ سال بھی نہیں گزرے تھے کہ جب ﷺ میں رسول اکرم ﷺ کی وفات ہوئی تو اسلامی مملکت تقریباً دس لاکھ مریع میل علاقے (پورے عرب اور جنوبی فلسطین) پر پھیل چکی تھی۔ اس پر مشکل سے پندرہ سال گزرے تھے کہ حضرت عثمانؓ کی خلافت کے زمانے (۶۴۷ھ) میں، ایک طرف طبری^(۳) کے مطابق،

(۱) تفصیل کے لئے بلاذری: فتوح البلدان ص ۲۷۲ باب ”خط کی ابتداء“ ملاحظہ ہو۔ مورخ بلاذری نے ان سترہ آدمیوں کے نام بھی گنوائے ہیں۔

(۲) تفصیلات اور نقشے کے لئے دیکھیے میری کتاب ”رسول اکرم ﷺ کی سیاسی زندگی“ ص ۵۵ و مابعد ”صلح حدیبیہ“۔

(۳) تاریخ طبری، طبع یورپ ص ۲۸۱ و مابعد، نیز گین: تاریخ زوال و انحطاط سلطنت رومانی ۵ ص ۵۵ مطبوعہ آفس فورڈ یونیورسٹی پر ہیں۔



سارے شمالی افریقہ سے گزر کر اسلامی فوجیں اندر لس میں داخل ہو چکی تھیں، تو دوسری طرف بلاذری^(۱) کے مطابق وہ دریائے چیخون (OXUS) کو عبور کر کے ماوراء النہر یعنی چین میں گھس گئی تھیں۔ اس کی توثیق، ہم صر چینی تاریخوں سے بھی ہوتی ہے۔^(۲) جنوب میں یہ لشکر خود حضرت عمرؓ کی خلافت میں تھا نہ (بمبی یا گجرات) اور دہل (تحصہ، قریب کراچی) تک^(۳) اور شمال میں آرمینیا اور اس سے بھی آگے تک پہنچ کر تھے^(۴)۔

یہ وہ زمانہ ہے جب مسلمان عرب اپنے حریفوں سے نہ تعداد میں اور نہ ہی ساز و سامان میں کوئی نسبت رکھتے تھے۔ اسی طرح یز نظیف (رومیوں) اور ایرانیوں میں، جن سے انہیں سابقہ پڑا تھا، خود فتوح حرب و قتل جس بلند درجے پر پہنچ ہوئے تھے، اس کا بیچارے بدھیوں کی حالت سے مقابلہ کرنے کا سوال بھی نہیں پیدا ہوتا۔ مزید برآں یہ مسلمان عرب اپنے گھروں اور خیموں سے کسی لوث ماریا زمانہ جاہلیت کی غارت گری کے لئے بالکل نہیں لٹکے تھے۔ بلکہ صرف اس لئے کہ اللہ ہی کا بول بالا ہو (لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا)

اصل میں ان کی جملی صلاحیتیں اور اسلامی تربیت ہی اس بات کی ذمہ دار تھیں کہ اس نتیجے تک پہنچیں۔ ان کے لئے فتوحات سیف ہوں کہ فتوحات قلم، دونوں ایک ہی چیز کے دو پہلو، اور ایک ہی باعث وداعی کے دو مظاہر تھے۔ ہمارے کرم فرماؤں کو اس کا یقین نہیں آتا۔ اگر فتوحات سیف میں خود ان کے مقبوضات ہاتھ سے نہ گئے

(۱) بلاذری: فتوح البلدان، طبع یورپ ص ۳۰۸۔

(۲) حوالوں کے لئے ہار تولڈ کی انگریزی کتاب "ترکستان" ص ۶۔

(۳) بلاذری: فتوح البلدان ص ۳۸۸ باب فتوح السندھ۔

(۴) تاریخ طبری حالت ۱۹۷۔

ہوتے تو شاید محض اسلامی تاریخوں میں اس کا ذکر دیکھ کر اس کے وجود سے بھی اسی طرح انکار کر بیٹھتے جس طرح فتوحات قلم کے متعلق ان کا روایہ ہے۔

یہاں ہمیں آغاز اسلام کی شمشیر زندگی (اور جسم انسانی کے علم جراحی) اور اس کے ارتقاء سے بحث نہیں، ہم اس دور کی قلم آرائی (اور ذہن انسانی کی تربیت و اصلاح) پر اکتفا کریں گے۔

پیغمبرؐ اسلام کی تعلیمی سیاست:

سب جانتے ہیں کہ پیغمبرؐ اسلام اُمیٰ تھے، قرآن شہادت دیتا ہے کہ آپ کو نہ پڑھنا آتا تھا، نہ لکھنا!

﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قِيلَهُ مِنْ كِتْبٍ وَلَا تَخْطُطْهُ بِيَمْيُنْكَ إِذَا لَأْرَتَابَ الْمُبْطَلُونَ﴾ (سورہ ۲۹ ع ۴۵ آیت ۳۸)

اس سے پہلے نہ تو کوئی کتاب پڑھتا تھا اور نہ اسے اپنے سیدھے ہاتھ سے لکھتا تھا ورنہ باطل پرست شک میں پڑ جاتے۔ یہ کتنا ولہ انگریز امر ہے کہ نبی امی کو سب سے پہلے جو وحی ربیانی ہوئی وہ لکھنے کی تعریف اور پڑھنے کے حکم ہی پر مشتمل تھی:

﴿إِنَّمَا يَأْسِمُ رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، إِنَّمَا وَرَبَّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلْمَ، عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمُ﴾ (سورہ ۹۶ آیت ۱۵)

پڑھ اپنے رب کے نام سے جو خالق ہے۔ جس نے انسان کو مجھے ہوئے خون کے قطرے سے پیدا کیا۔ پڑھ کہ تیرا بزرگ و برتر رب وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اور انسان کو سکھایا جو وہ نہ

جاناتا تھا،

یہاں "اقرئُ" کے معنی پڑھنے ہی کے ہو سکتے ہیں۔ معمولی پیام پہنچانے کے نہیں۔ (جیسے محاورہ یقائقہ السلام میں ہوتے ہیں) کیونکہ سیاق عبارت میں قلم کی تعریف اور اس کے ذریعہ علم ہونے کا ذکر ہے۔ غرض نبی امی نے امت کو اللہ کا جو پہلا حکم پہنچایا۔۔۔ اور جس کی عمر بھر تقلیل کرائی۔۔۔ وہ پڑھنے اور لکھنے ہی کے متعلق تھا۔ اور آپ، جیسا کہ قرآن میں بیان ہوا ہے:

﴿فِي الْأَمْيَانِ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَلَوُ عَلَيْهِمْ آئِيهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلَّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ (سورہ ع۲۴ آیت ۲)

یعنی امیوں میں نہیں میں کے ایک رسول تھے جو ان پر اس یعنی خدا کی آیتیں تلاوت فرماتے ان کو تزکیہ نفس سکھاتے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے۔

اسی طرح آپ و قاتوف قاتا نازل ہونے والی آیتوں اور سورتوں کے فوراً لکھانے کا انتظام فرماتے، جو تزکیہ اخلاق اور تعلیم ذہنی پر منزرا تھا۔

مگر ہم وطنوں نے آپ کی بات کم مانی، اور آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو، جو خدا کی راہ میں ساتھ دے رہے تھے، طرح طرح سے ستانا شروع کیا،^(۱) جب اذیت کا پانی

(۱) اس زمانے میں بھی چند مدنیے والے مسلمان ہوئے تو وہاں ایک معلم بھیجا گیا (یعنی حضرت مصعب بن عییر جو مقرری کہلاتے تھے) تاکہ لوگوں کو قرآن، فتنہ اور دینیات کی تعلیم دیں۔ یہ بھرت سے قبل کا واقعہ ہے (دیکھو سیرت ابن حشام ص ۲۸۹ تا ۲۹۰)۔ اسی طرح بخاری میں ہے ”براء صحابی کہتے ہیں کہ صحابہ میں اول مدینہ میں مصعب بن عییر اور ابن ام مکتوم آئے اور قرآن کی تعلیم دیئے گئے“ (بخاری، کتاب الشیر)

سر سے اوپنچا ہو گیا، تو جو لوگ بھرت کر سکتے تھے، گھر بار چھوڑ کر مدینہ چلے گئے اور آخر آپ ﷺ بھی ان سے جا ملے، اور وہاں امت کی سیاسی تنظیم و تشکیل شروع فرمائی۔ بھرت کے بعد جو سورہ سب سے پہلے نازل ہوئی، وہ سورہ بقرہ ہے۔ اور اسی میں مشہور آیت مداینہ (اصول قرض وہی) بھی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَبَّرْتُمْ بِدِينِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمٍّ فَأَكْتُبُوهُ وَأَسْتَشْهِدُوْ شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنُوا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَاتَانِ وَلَا تَسْتَهِنُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَذْنِي أَلَا تَرْتَابُوا﴾

(قرآن سورہ بقرہ ۲۸۲ آیت ۲۸۲)

اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہیں، جب تم آپس میں کوئی قرض وہی کسی معینہ مدت کیلئے کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔۔۔ اور اپنے مردوں میں سے دو گواہوں کی شہادت حاصل کرو۔ اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں۔۔۔ اور کابلی نہ کرو اس کے لکھنے سے چھوٹا ہو یا بڑا اس کے وعدہ تک۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے اور گواہی کے لئے زیادہ سید ہی اور مضبوط، اور اس بات سے زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔

اس آیت کے نازل ہونے سے لکھنے پڑھنے پر توجہ بڑھی گئی ہو گی۔^(۱)

(۱) قرض وہی کے علاوہ حدیثوں میں وصیت کو بھی لکھ رکھنے کا حکم ہے۔ چنانچہ عبد اللہ بن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا“ کسی مسلمان کو جس کے پاس وصیت کے لائق کچھ مال و دولت ہو تو یہ مناسب نہیں کہ وہ اتنیں اس طرح گزارے مگر یہ کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی رکھی ہو۔ (الا وَصِيَّةٌ مَكْتُوبَةٌ عِنْهُ) (بخاری ح ا کتاب اوصایا)۔

آیا جس میں دشمن کی تعداد مسلمانوں سے تگنی تھی^(۱) پھر یہ کامیاب رہے اور بہت سے قیدی ہاتھ آئے۔ ان اسیروں سے جو بر تاؤ کیا گیا اس پر آدمی سرد ہٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے، چنانچہ دشمن کی رہائی کا فدیہ یہ مقرر کیا گیا کہ جو قیدی لکھنا پڑھنا جانتا ہو وہ دس دس مسلمان بچوں کو اس فن کی تعلیم دے۔^(۲) کیوں نہ ہو کہ ”نبی الملحدہ“^(۳) ساتھ ہی ”مذہبۃ العلم“^(۴) بھی تھا۔

بعض دوستی روس محمد ثلوث نے اس واقعہ کا خوب عنوان باندھا ہے ”مشرك کو استاد بنانے کا جواز“ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہ تھا بلکہ تعلیم پھیلانے کے متعلق مستقل سیاست ہی کی پیش رفت و تعمیل تھی۔

رسول کریم ﷺ کا شرف فرمایا کرتے: ”بَعْثَتُ مُعُلِّمًا“^(۵) (میں معلم بنار بھیجا گیا ہوں) اسی طرح آپ بچوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ اپنے پڑو سیوں سے علم یکھیں۔^(۶)

(۱) مسلمانوں کے پاس تین سو سے کچھ ہی زائد سپاہ تھی، دشمن کی تعداد مذکور خود نے سارے ہے تو سو لکھی ہے (طبری ص ۱۲۹۸، ص ۱۳۰۳، نیز ابن حشام ص ۲۳) تفصیل کیلئے ریکھتے میری کتاب: عہد نبوی کے میدان جنگ، عنوان ”غزوہ بدر“۔

(۲) طبقات ابن سعد، ۱/۲/ص ۳، کیلیل: الروض الانف جلد ۲ ص ۹۲، مسنده احمد بن حنبل ۱/۲۳۷، نیز کتاب الاموال ص ۱۶۰، نیز ۱۳۰۳۔ مصنف عبد الرزاق میں بھی اس کا تفصیل تذکرہ ہے۔

(۳) ابن تیمیہ، ذہبی، ماوردی، طبری وغیرہ نے اسے حدیث قرار دیا ہے۔ طبری کبیر میں ابو موکی روایت کرتے ہیں: ”أَنَّهُيَّ الْمُلْحَمَةُ، أَنَّهَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ“، مسندرک، حاکم، طبرانی کبیر، اس کے راوی ہیں، جامع صغیر ج ۱ ص ۲۶۹۔

(۴) چاہے یہ الماظن حدیث میں ثابت نہ ہوئے ہوں، مفہوم کی صحت پر کسی کو اعتراض نہیں۔

(۵) سنن ابن ماجہ، باب فضل العلماء، ابن عبد البر، مختصر بیان العلم ص ۱۵ نیز مکملہ، کتاب العلم بحوالہ داری۔

لکھنے پڑھنے کی عام ترویج کا انتظام:

مدینہ منورہ آنے کے بعد رسول اکرم ﷺ نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ اس عمارت کے ایک حصہ میں سائبان اور چبوترہ (صفہ) بنایا گیا۔ یہ اولین اسلامی اقامتی جامعہ تھی۔ رات کو طلبہ اس میں سوتے، اور اساتذہ مامور کئے گئے جو دن کو انہیں وہاں لکھنے پڑھنے اور مسائل دین وغیرہ کی تعلیم دیتے، چنانچہ عبد اللہ بن سعید بن العاص جو خوشخیت تھے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی کاتب کی حیثیت سے مشہور تھے۔ انہیں وہاں لکھنا سکھاتے۔^(۱) اسی طرح عبادہ بن الصامت سے مردی ہے کہ انہیں رسول اکرم ﷺ نے اس بات پر مامور کیا کہ صفحہ میں لوگوں کو لکھنا سکھائیں اور قرآن پڑھائیں^(۲) مدینے میں ۲ ہھ میں ایک اور اقامتی درسگاہ دار القراء کا بھی پتہ چلتا ہے۔^(۳)

بھرت پر مشکل سے ایک سال گزر اتحاکہ رمضان ۲ ہھ میں بدر کا معمر کہ پیش

(۱) اسد الغابہ لابن الاشیر ۳/۵۷۔ استیعاب لابن عبد البر جلد دوم ص ۳۹۳۔ الاصابہ لابن جھن نمبر (۶۹) ان کا نام زمانہ جاہلیت میں الحکم تھا۔ رسول اللہ نے عبد اللہ سے موسوم فرمایا، صفحہ کی درس گاہ میں تعلیم پانے والوں کی کثیر تعداد کا المازوا اس سے ہوتا ہے کہ ایک قبیلہ تمیم سے ۷۰، ۸۰ طلباء آئے تھے، ابن عبد البر لکھتے ہیں:

كَانَ فِي وِفَدِ تَمِيمٍ سَبْعُونَ اُوْلَمَانُونَ رَجُلًاً فَاسْلَمُوا وَيَقِيمُوا فِي الْمَدِينَةِ مَدَةً يَعْلَمُونَ الْقُرْآنَ وَالدِّينَ (قبیلہ تمیم سے ستر یا اسی اشخاص اسلام لائے اور مدینہ میں ایک مدت تک تھہر کر قرآن سیکھا اور دینی تعلیم حاصل کی) (استیعاب)

(۲) التراتیب الاداریہ عبدالحی الکتلنی ۱/۳۸ (بحوالہ ابو داؤد)

(۳) الکتلنی ۱/۵۶۔

اور اپنے پڑوں کی مسجد میں سبق پڑھا کریں۔^(۱) مورخ بلاذری نے ذکر کیا ہے کہ عہد نبوی میں مدینہ میں نو مسجدیں تھیں۔^(۲) تین وقت نمازیں لوگ وہیں پڑھتے لیکن نماز جمع کے لئے رسول اکرم ﷺ کے ساتھ مسجد نبوی میں جمع ہو جاتے۔ مورخ بیان کرتے ہیں کہ اہل جوانا نے (جو بحرین پر موجودہ الحسائیں ہے) ایک مسجد تعمیر کی جو مدینہ کی مسجد کے بعد پہلی جامع مسجد تھی۔ اصل میں آس حضرت ﷺ نے انہیں لکھ بھیجا تھا کہ ”فلاں فلاں جگہ مسجد بناؤ۔۔۔ اور ایک روایت میں : مسجد بناؤ اور فلاں فلاں کام کرو۔۔۔ درنہ میں تم سے جنگ کروں گا۔^(۳) یقیناً یہاں بھی درس و تدریس کا انتظام ہوا ہو گا۔

اسی طرح جب عمرو بن حزم کو میکن کا عامل (گورنر) بننا کر بھیجا گیا تو انہیں فرائض منصی کے متعلق ایک تحریری ہدایت نامہ دیا گیا، اس میں انتظامی امور کے علاوہ تعلیم کی اشاعت کے بھی احکام ہیں۔^(۴)

مورخ طبری نے اللہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے معاذ بن جبل کو ناظر تعلیمات بنانا کر میکن بھیجا، جہاں وہ ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں دورہ

(۱) الکتابی: التراتیب الاداریہ (ج ۱ ص ۱۰۵) بحوالہ اصحاب، ابراہیم اسحاقی۔

(۲) ابن عبد البر: مختصر، بیان الحجیم ص ۱۲۳۔

(۳) بلاذری: انساب الاشراف (خطوٹ قاهرہ)، (ج ۱ ص ۳۲۰)۔

(۴) پورا منشن میری کتاب: الوہاۃ السیاسیہ میں نمبر (۷۷) بحوالہ بخاری، ابن طولون، یا قوت وغیرہ دیکھئے۔

(۵) الوہاۃ السیاسیہ نمبر (۱۰۵) بحوالہ ابن بشام، طبری وغیرہ۔ ابن عبد البر لکھتے ہیں: استعمل رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَرَوْ بْنَ حَزْمَ عَلَى أهْلِ نَجْرَانَ وَهُوَ أَبْنَ سِعْدٍ عَشَرَةَ سَنَةً لِيَتَفَقَّهُمْ فِي الدِّينِ وَيَعْلَمُ الْقُرْآنَ (رسول اللہ ﷺ نے عمر بن حزم کو اہل نجران پر گورنر بنانا کر بھیجا۔۔۔ اور وہ سڑا سال کے تھے۔۔۔ کہ قرآن پڑھائیں اور دینی تعلیم دیں۔) (ابن عبد البر: الاستغاب)

کیا کرتے اور مدارس کی نگرانی و انتظام کرتے۔^(۱)

مرد ہی نہیں، عورتیں بھی اس تعلیمی سیاست کا موضوع تھیں، آں حضرت ﷺ نے ہفتہ میں ایک دن عورتوں کی تعلیم و تذکیر کے لئے مخصوص فرما رکھا تھا۔^(۲) موطاکی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہؓ اور ام المؤمنین حضرت خصہؓ کھنڈا پڑھنا جانتی تھیں۔^(۳) نیز ابو داؤد^(۴) و عبد الرزاق^(۵) کی حدیث ہے

(۱) تاریخ طبری (طبع یورپ) سلسلہ اول ص ۱۸۵۲ تا ص ۱۸۵۳ اوسی، مورخ ابن خلدون بھی لکھتے ہیں: ”بَعَثَ النَّبِيُّ عَلِيَّهُ مَعَاذَ بْنَ حَبْلَ مُعَلَّمًا لِأَهْلِ الْبَيْنَ وَحَضَرَ مَوْتَهُ“ (رسول اللہ ﷺ نے معاذ بن حبل کو میکن والوں اور حضرموت کا معلم بناؤ کر روانہ فرمایا)۔
قارہ اور عضل ہائی و قیلیہ مشرف بر اسلام ہوئے تو رسول اللہ ﷺ نے چھ مدرس مقرر فرمائے۔
قد بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّهُ إِلَى عَضْلٍ وَفَارَةٍ مَرْثُدٍ بْنِ أَبِي مَرْثُدٍ، عَاصِمٍ بْنِ ثَابَتٍ، حَبِيبٍ بْنِ عَدْدٍ، حَالِدٍ بْنِ الْبَكْرِيِّ، زَيْدٍ بْنِ دَتَّةٍ، عَبْدَ اللَّهِ بْنِ طَالِقَ، لِيَتَفَقَّهُو هُمْ فِي الدِّينِ وَيَعْلَمُو هُمُ الْقُرْآنَ وَشَرَاعِ الْإِسْلَامِ.....

(ابن عبد البر: الاستغاب)

رسول اللہ ﷺ نے عضل اور قارہ قبیلہ کے لئے مرشد بن ابی مرشد، عاصم بن ثابت، حبیب بن عدی، حالد بن کبیر زید بن وہب، عبد اللہ بن طالق کو روانہ فرمایا تھا کہ یہ قرآن پڑھائیں، دینی تعلیم اور شریعت اسلامیہ کا درس دیں۔۔۔

(۲) بخاری (ج ۲، کتاب العلم، باب: هل يُحَلِّ لِلْمُسْلِمِ عَلَى جَدِّهِ فِي الْعِلْمِ)۔

(۳) موطا امام مالک میں زید بن اسلم سے روایت ہے کہ ”ام المؤمنین حضرت عائشہؓ نے اپنے

آزاد کردہ غلام ابویوس کو حکم دیا کہ ان کیلئے ایک مصحف لکھا کر تھا۔۔۔“ امام مالک: موطا، کتاب الصحاوۃ، الصلوۃ والسطی۔

(۴) سنن ابی داؤد، کتاب الطہ، باب الرقی بیزاری: فتوح البلدان ص ۲۷۳۔

(۵) مصنف عبد الرزاق (ج ۲) کتاب الباجع باب الرقا۔

کہ ام المومنین حفصہؓ نے آں حضرت علیؓ کے علم و اجازت سے اپنی ایک رشتہ دار خاتون شفا بنت عبد اللہ سے (جو خوب پڑھی لکھی تھی)، لکھنا سیکھا تھا۔ یہاں اس پہلو کو طول دینے کی ضرورت نہیں، سوائے اس کے کہ زنانہ تعلیم پر اس توجہ کا ہی نتیجہ تھا کہ بعد کے زمانے میں حور تیں مختلف علمی میدانوں میں مردوں کے ساتھ مسابقت کرنے لگیں، چنانچہ زیر اشاعت صحیفہ ہمام کے مخطوطہ دمشق کے سماعات میں (جو آگے اپنی جگہ درج ہیں)، ایک معلمہ کا بھی مذکور ہے یعنی ام الفضل کریمہ بنت ابی الفراس نجم الدین القرشیہ الزیریہ، جس نے اپنے گھر میں ایک مدرسہ حدیث کھول رکھا تھا۔ اسی طرح ابو عبید قاسم بن سلام (۱۵۲ھ تا ۲۲۲ھ) کی کتاب الاموال، جو مالیہ حکومت (قیناس) کے دیقیق مسائل پر مشتمل ہے، بسم اللہ کے بعد ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے (یہ کتاب اب مصر میں چھپ گئی ہے):

فُرِي عَلَى الشِّيخَةِ الصَّالِحَةِ الْكَاتِبَةِ، فَخَرَ النِّسَاءُ شَهِيدَةٌ بَنْتُ
ابِي نَصْرٍ أَحْمَدَ بْنِ الْفَرَّاجِ بْنِ عُمَرَ الْإِبْرِيِّ الدِّينُرِيِّ بِمَنْزِلِهَا
بِيَغْدَادَ.

گوکار و خوش نویں پروفیسر فخر النساء شہدة کو (جو سوزن ساز یعنی سوئی بنانے والے ابو نصر احمد بن الفرج بن عمر دینوری کی دختر ہیں) بغداد میں ان کے گھر پر سن کر سند حاصل کی گئی۔

اسلام کی ابتدائی صدیوں کے متعلق معلومات حاصل کرنے ہوں تو حدیث یا رجال کی کتابیں دیکھ لی جائیں جن میں راویوں کے ناموں میں عہد صحابہ و تابعین و تبعین کی خادمات علم کے نام کثرت سے مل جائیں گے۔

تدوین حدیث:

تعلیم کے بارے میں آں حضرت علیؓ کی عام سیاست کے جواہرات پیدا ہوئے، یہ ان میں سے کے چند نمونے اور مثالیں ہیں لیکن ہمیں تدوین حدیث کے مسئلے سے ہی یہاں خاص بحث ہے۔ حدیث یعنی حدیث نبوی میں رسول اکرم علیؓ کے اقوال، افعال اور تقریرات (یعنی کسی صحابی کو کچھ کرتے دیکھ کر اسے رو اور برقرار رکھنا) تینوں شامل ہیں۔ انہیں کا تذکرہ حدیث کی کتابوں میں ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان کتابوں کی تایف کا آغاز کب ہوا؟ اور موجودہ موجودہ کتابوں پر کوئی غیر جانبدار شخص کس حد تک اعتماد کر سکتا ہے؟ واضح رہے کہ زیر اشاعت صحیفہ ہمام بھی حدیث ہی کی ایک تایف ہے۔

بد یہی طور پر یہ ایک محال بات ہے کہ نبی اکرم علیؓ نے جو کچھ کہا، کیا، یا اور وہ میں رو ار کھا، یہ سب کا سب لکھا اور مددوں کیا گیا ہو۔ یہ انسانوں کا نہیں فرشتوں کا کام ہے۔ ”سَكَرَّاً مَا كَاتَبْيَنَ يَعْلَمُونَ مَا تَفَعَّلُونَ۔ (سورہ، ۸۲، آیت ۱۱) (یعنی تم جو کچھ کرتے ہو، اسے شریف، لکھنے والے فرشتے خوب جانتے ہیں) اسی طرح یہ بد گمانی بھی ہے بیان کیا ہے کہ عہد نبوی میں کچھ لکھا ہی نہیں گیا کیونکہ واقعات اس کے خلاف ہیں جیسا کہ آگے نظر آئے گا۔ بہر حال اسی امی امت نے اپنے نبی کی جو حدیثیں اپنی آنکھی دیکھی اور کان سنی باتوں کی بناء پر لکھی ہیں وہ اس سے کہیں بڑھا چڑھا ہے جو دوسری امتوں نے اپنے انبیاء کے متعلق بروقت لکھا ہو۔ بالکل اسی طرح جس طرح یہ امی امت دوسروں پر اپنے آغاز کارہی میں فتوحات ملکی اور دور راز براعظموں میں دین کی نشر و اشاعت کے بارے میں بھی غیر معمولی فوقيت رکھتی ہے۔

لیکن نہ محض خوش اعتقادی کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس میں کوئی جرح کہ کسی

جویاے حق کی طرح آغاز شک اور "معلوم نہیں" سے کریں اور سوائے ایسی چیز کے جس سے انکار کی مجاہد رہے کسی بات کو نہیں۔

ہم اوپر دیکھے چکے ہیں کہ اس زمانے میں غریب عربی خط کا کیا حال تھا اور عربوں میں لکھنا پڑھنا جانے والوں کی تعداد کتنی تھی۔ جب "سیکھو اور سیکھاؤ" کا حکم نبی کریم ﷺ نے اپنے پیر و والوں کو دیا تو ان امیوں میں مخلص و مستعد فداکاروں کے لئے چیلنج تھا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ وہاں سے کس طرح عبدہ برآ ہوئے۔

عبد نبوی میں سرکاری طور پر لکھی ہوئی حدیثیں:

(الف) جب مکی مسلمان مدینہ بھرت کر گئے تو انہوں نے وہاں ایک حکومت اور شہری مملکت کی بنیاد بھی رکھی۔ رسول اکرم ﷺ نے وہاں کے سب باشندوں یعنی مہاجرین، انصار، یہود، تاحال اسلام نہ لائے ہوئے عربوں وغیرہ سے مشورہ کیا اور ایک دستور مملکت نافذ فرمایا۔ یہ تاریخ عالم میں سب سے پہلا "تحریری دستور مملکت" ہے۔ اس میں حاکم و حکوم و دنوں کے حقوق واجبات کی تفصیل ہے اور اہتماء یوں ہوئی ہے: "پیغمبر محمد رسول اللہ ﷺ کی یہ ایک تحریر ہے جو قریش اور پیغمبر کے مومنوں اور مسلمانوں اور ان لوگوں کے درمیان (مؤثر) ہے جو ان (مسلمانوں) کے تابع ہوں، ان سے آمیں اور جنگ میں ان کے ساتھ حصہ لیں، یہ حقیقت میں (دنیا کے) سارے لوگوں سے علیحدہ ایک مستقل امت ہیں..... وغیرہ"

(۱) متن کے لئے اوپرائی سیاسیہ نمبر (۱)، بکالہ ابن ہشام، ابو عیید و ابن سید الناس وغیرہ اور تفصیلی بحث کے لئے اردو میں میری تالف "عبد نبوی کا نظام حکمرانی" باب سوم، عربی میں روشنیاد موتبر داڑھہ المعرف العثمانی حیدر آباد ۱۹۳۵ء اور انگریزی میں اسلامک ریوویو (واکنگ) اگست تالو مبر ۱۹۹۲ء۔

یہاں "یہ ایک تحریر ہے" کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ ضرور ہے کہ یہ کوئی لکھی ہوئی تحریری چیز ہو^(۱)۔ باون دفعات کے اس دستور میں نفس متن میں پائچ مرتبہ "اہل هذه الصحیفہ" (اس دستاویز والوں) کے الفاظ دہراتے گئے ہیں۔ اس طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ "یہ تحریر (کتاب) کسی ظالم یا گناہ گار کے برخلاف حاکل نہ ہوگی۔" یہ بھی کہا ہے کہ "یثرب کامیدان (جوف) اس صحیفے والوں کے حق میں ایک حرم ہے" اگرچہ نفس دستور میں اس یثربی حرم یعنی شہری مملکت کے حدود کی تفصیل نہیں ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ذیلی قواعد کے طور پر اس کو بھی تحریری طور پر منضبط کیا گیا تھا چنانچہ امام احمد بن حبل^(۲) نے اپنی مسند^(۳) میں روایت کی ہے۔

عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ.... فَإِنَّ الْمَدِينَةَ حَرَمٌ حَرَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَنَا فِي أَدِيمٍ خَوْلَانِيٍّ.

رافع بن خدیج سے مردی ہے..... کہ مدینہ ایک حرم ہے ہے رسول اللہ ﷺ نے حرم قرار دیا ہے اور یہ ہمارے پاس ایک خوانی چڑے پر لکھا ہوا ہے۔

جہاں سیاسی نقطہ نظر سے حدود مملکت اور رقبہ سلطنت کا تعین ضروری خیال کیا گیا، وہیں عملی نقطہ نگاہ سے سرحد اندازی بھی لازم تھی چنانچہ مطہری نے اپنی تاریخ مدینہ (مائنسَتُ الْهُجُرَةِ مِنْ مَعَالِمِ دَارِ الْهِجَرَةِ) میں تصریح کی ہے^(۴) کہ "کعب بن

(۱) محدث عبد الرزاق نے یہ الفاظ استعمال کئے ہیں "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْكِتَابِ

الذِّي كَبَيْهَ بَيْنَ قَرِيبِهِ وَالْأَنْصَارِ (مصنف عبد الرزاق، کتاب الحقول)

(۲) مسند احمد بن حبل۔ جلد چہارم ص ۱۳۱، حدیث نمبر (۱۰)

(۳) مخطوطہ شیخ الاسلام، عارف حکمت بے، مدینہ منورہ، باب تحریری المدینۃ۔

مالک کہتے ہیں: مجھے رسول اللہ ﷺ نے بھیجا کہ مخصوص، حُفَيْدَةُ الْعَشِيرَةِ اور نَسِيمٍ (کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر علامت سرحد کے منارے تعمیر کرو)۔

(ب) اسی طرح بھرت کے ابتدائی زمانے میں آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں کی مردم شماری کرائی چنانچہ صحیح بخاری میں روایت ہے آنحضرت نے فرمایا:

أَكْبُرُ الْمُنَّى مَنْ تَلَقَّطَ بِالإِسْلَامِ مِنَ النَّاسِ.

مجھے ان لوگوں کے نام لکھ دو جو اسلام کا اقرار کرتے ہیں۔
فَكَبَّلَنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسُ مِائَةٍ رَجُلٍ۔

اس پر ہم نے آپ کے لئے پندرہ سو آدمیوں کے نام لکھ دیئے۔

اس میں مرد، عورت، بچے اور بڑے سب شامل معلوم ہوتے ہیں، یہ مردم شماری تحریری طور سے ہونا بیان کی گئی ہے۔ تعداد سے گمان ہوتا ہے کہ یہ لَهُ کا واقع ہو گا۔

(ج) سرکاری دستاویزوں اور معابدوں، پروانوں کا آغاز بھرت سے بھی پہلے ہو چکا ہوا نظر آتا ہے، چنانچہ کہتے ہیں (ملک) کہ تمیم داری کو بھرت سے پہلے بھی فلسطین کا شہر حبرون ایک پروانے کے ذریعے سے یہ کہہ کر جا گیر میں دیا گیا کہ جب یہ شہر خدا کی عنایت سے فتح ہو، تو وہ تمہارا ہے، اسی طرح خود سفر بھرت میں سرافہ بن مالک مدھی کو

(۱) بخاری کتاب انجہاد والسریر، باب کتابۃ الامام للناس (التاب ۵۶، باب ۸۱، حدیث نمبر ۱)

(۲) الوٹاکن السیاسیہ نمبر (۳۳) بکوالہ طبی، مقریزی، قسطلانی وغیرہ۔

ایک پروانہ امن لکھ کر دیا گیا تھا۔ (۱) ان سے قطع نظر کریں تو ایسا نظر آتا ہے کہ اسے میں قبیلہ جہیہ سے حلیف اور دوستی کا معابدہ ہو گیا تھا اگرچہ اس کا متن نہیں ملتا، چنانچہ سیف یعنی ساحل بحر (بنج) کی سمت سے حضرت حمزہؑ کی جو ہم بھیجنی گئی اس کے ذکر میں ابن ہشام (۲) وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ ”مجدی بن عمرو الجھنی مسلمانوں اور قریشی کاروائی کے مابین آڑے آگیا اور یہ دونوں فریقوں کا حلیف (مدادع) تھا“ البتہ صفر (۳) کا معابدہ محفوظ ہے یہ بنی ضمرہ سے ہوا تھا۔ سہیل (۴) نے اس کا متن یوں نقل کیا ہے: ”یہ ایک تحریر ہے محمد رسول اللہ! کی بنی ضمرہ کیلئے.....“ اس طرح کے معابدوں کا سلسلہ آں حضرت ﷺ کی زندگی بھر جاری رہا۔ بعض عجیب چیزیں بھی پیش آئیں۔

۵۔ میں خندق کے زمانے میں بنی فزارہ اور غطفان سے ایک توثیق طلب یا مسودہ معابدہ (مراویہ) (۵) ہوا تھا اور بعد میں میث دیا گیا۔

(۱) ایضاً نمبر (۲) بکوالہ ابن ہشام وغیرہ۔

رسول اللہ نے بلال بن حارث المرنی کو قبیلہ کی معدنوں کا حیکم دیا تھا اس کی پوری سند کا جو متن رسول اللہ نے انہیں تحریر میں لکھ دیا تھا وہ ابواؤد کتاب القطائع میں موجود ہے۔ نیز موطا کتاب الزکات نے کتاب الاموال میں بھی مذکور ہے۔ ابو عبید قاسم بن سلام اور مورخ بذا فرازی کا بیان ہے کہ ”بلال بن حارث کی اولاد نے ایک جریدہ میں رسول اللہ کا فرمان پیش کیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس فرمان مبارک کو چوہا اور آنکھوں سے لگایا۔“ ابو عبید: کتاب الاموال ص ۲۳۹ نمبر ۸۶۶ نیز بلاذری: فتوح البلدان ص ۱۳۔

(۲) سیرۃ رسول اللہ لا بن ہشام (طبع یورپ) ص ۳۱۹۔

(۳) الروض الانف ۵۵۸/۲ تا ۵۵۹ نیز الوٹاکن السیاسیہ نمبر (۳۳۹) بکوالہ ابن سعد وغیرہ۔

(۴) الوٹاکن السیاسیہ نمبر (۸) بکوالہ ابن ہشام وطری۔

۲۷ کے صلی نامہ حدیبیہ کے الفاظ پر جھگڑا مشہور ہے جس پر آں حضرت ﷺ نے آخر حکم دیا تھا کہ بعض لکھے ہوئے الفاظ میثدیے جائیں۔^(۱)
 ۲۸ کے غزوہ تبوک کے متعلق سوراخ لکھتے ہیں کہ دُوْمَةُ الجندل کے حکم اہل حکم ایکیدر بن عبد الملک بن عبد الجنِ الحیری نے جب اطاعت کامعاہدہ^(۲) کیا تو آں حضرت نے دستاویز پر ”اپنے ناخن سے مہر فرمائی“ (خَمْمَةٌ بظفره)^(۳) یہ اصل میں اکیدر کے وطن حیرہ والوں کا قدیم رواج تھا کہ معاهدوں پر انگوٹھے کا نہیں بلکہ ناخن کا نشان لیتے تھے اور اس سے ہلاں کی شکل کی ایک لکیر پڑ جاتی تھی، چنانچہ آثار قدیمہ کی کھدائیوں میں پختہ اینٹوں پر کندہ کئے ہوئے زمانہ قبل مسح کے جو معاهدے لئے ہیں، ان پر نہ صرف ایسی علامتیں موجود ہیں بلکہ یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ ”بغرض توثیق ناخن کا نشان ثابت کیا“^(۴)۔

(د) آں حضرت ﷺ نے قیصر و کسری، مقوس و نجاشی وغیرہ حکمرانوں کو

(۱) سیرۃ ابن ہشام ص ۷۳۔

(۲) مقتن کیلے الولایت السیاسیہ نمبر (۱۹۰) نیز ابو عبید قاسم بن سلام: کتاب الاموال ص ۱۹۵ نیز ۵۰۸، ابو عبید قاسم بن سلام (التوفی ۲۲۲ھ) لکھتے ہیں کہ ”خود میں نے اس تحریر کو پڑھا اور وہ ایک سفید پھرے پر لکھا ہوا تھا اور میں نے حرف بہ حرفاً اس کی نقل لے لی۔“

(۳) طبقات ابن سعد جلد دوم حصہ اول ص ۱۲۰، نیز تراویب کتابی ۱/۱۷۱، بحوالہ اصحابہ لاہ بن جبرود وہب بن اکیدر نیز اکیدر بن عبد الملک۔

(۴)

Oluf Krueckman, Neue babylonische Recht und verwaltungstexte text 87, tafel 38, chedwards, the hammurabi code, p.11; Missner, BabylonienundAssyrien, 1,179.

تبیغی خط بھیجے تھے ان میں سے قیصر کا موسومہ اصل خط حال حال تک موجود تھا۔^(۱) مقوس، نجاشی اور المذہر بن ساوی کے خطوط کی اصلیں موجود و معروف ہیں۔^(۲) ابن عساکر نے اپنی ”تاریخ دمشق“ میں لکھا ہے^(۳) کہ ابو العباس عبد اللہ بن محمد نے شہر ایلمہ والوں سے ان کا معاهدہ نبوی تین سو اشرفی میں خرید کیا۔ کسری کے متعلق مروی ہے کہ اس نے نامہ مبارک کو پوری طرح نے بغیر چاک کر دیا تھا^(۴) یہ سب بھی تحریری ہی چیزیں تھیں۔

رسول اللہ ﷺ کے کاتب ”زید بن ثابت“ نے رسالت ماب ﷺ کے حکم

(۱) میری تایف ”رسول اکرم ﷺ کی سیاسی زندگی“ میں باب ”مکتوب نبوی ہنام قیصر روم۔“

(۲) اپنے باب ”مکتوبات نبوی کے وصول۔“

(۳) ابن عساکر: تاریخ دمشق طبع جدید (شائع کردہ صلاح الدین المخدج) جلد اول ص ۳۲۰۔

(۴) صحیح بخاری کتاب العلم باب ما یذكر فی المناوحة نیز تاریخ طبری^(۱) کے واقعات

ص ۱۵۷۲ مطبوعہ لیدن بالینڈ بخاری کتاب jihad میں عبد اللہ بن عباس^(۲) ہیان کرتے ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ نے ایک نامہ مبارک (عبد اللہ بن حداونہ کو دے کر) کسری (شاہ ایران) کے پاس پہنچوایا۔ (بھت پہنچاہے ایسی کسری) آپ نے (عبد اللہ بن حداونہ کو) حکم دیا کہ یہ خط بحرین کے حاکم (منذر بن ساوی) کو دینا وہ کسری کو پہنچا دے گا۔ (منذر نے ایسا ہی کیا) کسری نے وہ خط پڑھ کر پھاڑا۔“

اسی بخاری کتاب jihad میں عبد اللہ بن عباس^(۳) ہیان کرتے ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ نے قیصر (روم) کو دعوت اسلام کا ایک خط لکھ کر دیجئے کبھی کے ہاتھ پہنچا (کتب الی قیصر) دعوہ الی اسلام و بعثت پہنچاہے الیہ مع دحیۃ الكلبی (اور دحیۃ کلبی سے فرمایا) مکتوب بصری کے حاکم (حارث بن ابی شر) کو پہنچا دینا وہ قیصر کو پہنچا دے گا۔“

بخاری کتاب العلم میں ایک اور واقعہ کا مذکور ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ نے فوج کے ایک سردار کو ایک مکتوب لکھ دیا (کتب الامر السریعہ کتابی) اور فرمایا کہ اس کو کھول کر پڑھنا ہیں جب تک تو فاس مقام پر نہ آئی جائے۔ جب وہ اس مقام پر پہنچا تو اس نے لوگوں کو وہ مکتوب پڑھ کر سنایا اور آں حضرت ﷺ کا حکم ان کو جتا ہے۔“ (بخاری ن آنکتاب العلم)

ان مثالوں کے دینے سے غرض صرف یہ ہے کہ اس طرح کی حدیثیں یعنی سیاسی دستاویزیں جو عہد نبوی سے تعلق رکھتی ہیں تحریری ہی ہو سکتی ہیں کیونکہ اس کے بغیر ان کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ خطوط پر ثبت کرنے کے لئے آس حضرت کا ایک مہر تیار کرنا بھی معروف واقعہ^(۱) ہے ایسی دستاویزوں یعنی تحریری حدیثوں کو اکٹھا کرنے کی کوششوں کا آغاز عہد صحابہ ہی میں شروع ہوا، جیسا کہ آگے بیان ہو گا۔ اس عاصی پر معاصی نے بھی اس سعادت کے حصول کی بساط بھر کو شش کی اور اگلوں پچھلوں کی کوششوں کو یکجا کر کے ”الوثائق السياسية في العهد النبوى والخلافة الراسدة“ مصر میں شائع کی۔ اس میں خاص عہد نبوی کی دو سو سے زائد دستاویزیں ہیں۔

حضرت عمرؓ نے زکوٰۃ سے تعلق ہونے تحریر لکھی تھی وہ امام مالک (التونی وفات) کی کتاب موطا کتاب الزکوٰۃ میں محفوظ ہے اور خود مالک ہیان کرتے ہیں کہ ”میں نے حضرت عمرؓ کی کتاب صدقہ کو پڑھا۔“ (۱) کتابیں ایکے ایکے (بحوالہ بخاری، ترمذی وغیرہ) صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ”جس وقت رسول کریم ﷺ نے شاوروم (دوسری روایت میں عمّ کے لوگوں) کو خط لکھنے کا رادہ کیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ وہ صرف مہر شدہ مکتب ہی پڑھتے ہیں، چنانچہ رسالت مابنے ایک چاندی کی انگوٹھی ہوئی۔ حضرت اُس کہتے ہیں کہ میں کی سفیدی گویا بھی رسول اللہ ﷺ کے باتحہ میں دیکھ رہا ہوں اور اس پر محمد رسول اللہ کندہ تھا اور اس انگوٹھی کا گنجیر جوشی علیق تھا“ (بخاری ج ۲۳، کتاب الملابس، نیز مسلم، کتاب الملابس)۔

حضرت اُس کہتے ہیں کہ ”جب ابو مکر صدیقؓ غلیف ہوئے تو انہوں نے مجھے مصدق بنا کر بھیجا اور زکوٰۃ کے مسئلے لکھ دیے اور اس پر ”محمد رسول اللہ“ کندہ تھا۔ محمد ایک سطر میں، رسول ایک سطر میں اور اللہ ایک سطر میں۔ حضرت اُس کہتے ہیں کہ آس حضرت کی انگلشتری آپ کے باتحہ میں رہی پھر حضرت ابو بکرؓ کے اور پھر حضرت عمرؓ کے باتحہ میں اور پھر جب حضرت عثمانؓ خلیف ہوئے تو وہ آرٹیس کے کنوں پر بیٹھے تھے اور انگلشتری کو باتحہ سے نکالتے بھی پہنچنے کے ناگاہ وہ کنوں میں گر پڑی۔ اُس کہتے ہیں کہ تین دن تک ہم لوگ حضرت عثمانؓ کے ساتھ اس انگوٹھی کو علاش کرتے رہے کنوں کا سارا پانی نکلا الا لیکن انگوٹھی نہ نکلی۔“ (بخاری ج ۲۳، کتاب الملابس)

سے یہودیوں کی زبان اور تحریر سیکھی تھی^(۲)۔ مورخ طبری کے علاوہ محدث ابو داؤد اور امام بخاری لکھتے ہیں کہ ”زید بن ثابتؓ نے رسول اللہ ﷺ کے حکم سے یہودیوں کی کتابت سیکھی تھی اور رسالت ماب ﷺ جو مر اسلے ان کو لکھتے یا جو مر اسلے وہ لکھتے زید بن ثابت ان کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے“^(۳)۔

(ه) انتظامی ضرورتوں سے اکثر موقع پیش آتارہتا تھا کہ آس حضرت ﷺ جزیرہ نماۓ عرب کے اطراف واکناف میں اپنے ہر جگہ کے گورزوں، قاضیوں، تحصیلداروں، وغیرہ کو وقفہ فتاویٰ اپنی ہدایتیں بھیجیں، یا پیچیدہ گھنیوں میں یہ افسر کچھ دریافت یا استھواب کریں تو اس کا جواب بھیجیں۔ اس کا پھر متواتر ذکر ملتا ہے کہ اواخر حیات میں آس حضرت نے زکوٰۃ یعنی زراعت، ریوڑوں، معدنیات، وغیرہ، میں حکومت کو ادا طلب حصول کی شرط میں تحریر کروائیں لیکن اضلاع وغیرہ میں بھیجنے سے قبل آپ کا انتقال ہو گیا اور یہ کہ حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ وغیرہ خلفاء نے اس پر عمل کیا^(۴)۔

(۱) بلاذری، فتوح البلدان ص ۵۱۳۔

(۲) بخاری نیز ابو داؤد نیز تاریخ طبری ص ۱۳۶۰ نہ کے واقعات۔

(۳) سنن دارقطنی، ابو داؤد، طبری، داری، کنز العمال وغیرہ میں اس کا مقتني ہے۔

سنن ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ اور ترمذی کتاب الزکوٰۃ میں عبد اللہ بن عمرؓ ہیان کرتے ہیں کہ ”رسول اللہ نے زکوٰۃ کی کتاب لکھی مگر آپ اس کو اپنے عاملوں کو بھیجنے نہ پائے تھے کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ نے اس کو اپنی تواریخ سے لگا کر حاصل تھا۔ حضرت ابو بکرؓ نے اس پر عمل کیا، یہاں تک کہ وفات پائی پھر حضرت عمرؓ نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ وفات پائی۔“

اسی ابو داؤد میں ”ابن شہاب زہری (۵۷-۹۱)“ کہتے ہیں کہ میں نے اس تحریر کو پڑھا اور وہ حضرت عمرؓ اولاد کے پاس تھی اور عمر بن عبدالعزیز (التونی ایج) نے اس تحریر کی نقل کروائی۔

گئیں^(۱) لیکن غور سے چھان بین کرنے پر نظر آتا ہے کہ اس کا تعلق یا تو ابتداء اسلام سے تھا یا ایسے لوگوں کے متعلق جو تازہ مسلمان ہوئے تھے اور قرآن و حدیث میں فرق نہ کر سکتے تھے۔ جنہیں قرآن خوب یاد ہو گیا اور جن کی صلاحیتوں سے اطمینان تھا تو آس حضرت ﷺ نے انہیں حدیث لکھنے کی نہ صرف خوشی سے اجازت دی بلکہ ترغیب بھی دی۔ ذیل کے واقعات سے اس پر روشنی پڑتی ہے۔

(الف) ترمذی^(۲) کی روایت ہے کہ انصاری صحابی نے ایک دن آس حضرت ﷺ کے پاس حاضر ہو کر اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی اور کہا کہ ہر روز وعظ و تذکیر میں آپ جو اہم اور کار آمد باتیں فرماتے ہیں وہ مجھے اچھی معلوم ہوتی ہیں لیکن وہ مجھے یاد نہیں رہتیں۔ آس حضرت ﷺ نے فرمایا: ”اپنے دانے ہاتھ سے مدد لو۔“ (یعنی لکھ لیا کرو) انہوں نے اس اجازت سے فائدہ اٹھایا ہوا لیکن مزید تفصیلیں معلوم نہیں۔

(ب) ایک مماش واقعہ عبد اللہ بن عمرو بن العاص القرشی کے متعلق مردی ہے^(۳)۔ یہ آس حضرت ﷺ کی اجازت سے ملفوظات نبوی لکھ لیا کرتے تھے تاکہ انہیں یاد رکھ لیں۔ لوگوں نے انہیں منع کیا کہ رسول اللہ ایک بذری ہیں کبھی خوشی اور کبھی خنکی کی حالت میں ہوتے ہیں اس لئے بلا امتیاز آپ کی ہر بات کو لکھ لینا مناسب نہیں۔ بات معقول تھی اس لئے رسول اللہ کے پاس آئے اور پوچھا کیا جو بھی آپ سے سنوں اسے لکھ سکتا ہوں؟ آپ ﷺ نے جواب دیا: ہاں۔ مزید اطمینان کے لئے

(۱) مسند احمد ابن حبیل جلد سوم ص ۱۳۲ تا ۱۳۴ اسٹر (۳۱) وما بعد۔

(۲) ترمذی: ابواب العلم باب ماجاه فی الرخصة فیہ۔

(۳) ترمذی حوالہ بالانیز سنن ابی داؤد کتاب العلم، مسند اہن حبیل (طبع جدید) احادیث نمبر ۶۵۰، ۶۸۰۲، ۶۹۳۰، ۷۰۲۰، ۷۰۱۸، ۶۹۳۰، ۶۸۰۲

اس کتاب کا نیا ایڈیشن زیر طبع ہے۔ اس میں عہد نبوی کے مزید چالیس ایک معاهدے جو بعد میں ملے، اضافہ کئے گئے ہیں۔

کتابت کی بعض اتفاقی صور تین:

صحیح بخاری^(۱) وغیرہ^(۲) نے روایت کی ہے کہ ۸۷ میں شیخ مکہ پر آس حضرت ﷺ نے حقوق انسانی وغیرہ اہم مسائل پر خطبہ دیا۔ ایک یمنی شخص ابو شاہ وہاں حاضر تھا۔ اس نے درخواست کی، یا رسول اللہ مجھے یہ لکھ دیجئے۔ آس حضرت ﷺ نے حکم دیا کہ وہ خطبہ اسے قلم بند کر دیا جائے (كتُبَهُ لَا بَيْ شَاهُ)

عقبال بن ماک انصاری کے متعلق روایت ہے کہ انہیں ایک دن رسول اللہ ﷺ کے کسی خطبے کی ایک بات بڑی پیاری معلوم ہوئی۔ اس پر یادداشت کے لئے انہوں نے اسے لکھ لیا^(۳)۔

عہد نبوی میں اہتمام کے ساتھ حدیث کی تدوین:

اگرچہ ایسی روایتیں نایاب نہیں کہ آس حضرت ﷺ نے اپنے صحابہ کو قرآن کے سوا آپ سے سنبھالی کسی چیز کے لکھنے کی ممانعت فرمائی ہو^(۴) جس پر لکھی ہوئی چیزیں میث دی گئیں بلکہ ایک مرتبہ تو کہتے ہیں کہ خاصی بڑی تعداد میں جلاودی بھی

(۱) صحیح بخاری ج ۱، ۲۳، باب کتابتہ العلم۔

(۲) سنن ابی داؤد باب کتاب العلم۔ ترمذی ابواب العلم باب ماجاه فی الرخصة فیہ۔

(۳) ڈاکٹر زبیر صدیقی کا مقالہ روئیداد اجلس اول ادارہ معارف اسلامیہ لاہور (صفحہ ۲۳ تا ۲۵) اسے) عنوان:

(Ahadith were Recorded during the lifetime of Muhammad)

(۴) مثلاً ترمذی، ابواب العلم، باب ماجاه فی کراہیہ کتابۃ العلم۔ نیز خطیب بغدادی کی کتاب تقید العلم میں تفصیلی بحث۔ یہ کتاب اب چھپ گئی ہے۔

پوچھا: "کیا رضا مندی اور غصب ہر حالت میں؟" اس پر آس حضرت ﷺ نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: "بحدا اس سے جو بھی لکھتا ہے وہ حق بات ہی ہوتی ہے" صحیح بخاری^(۱) میں وہب بن منبہ نے اپنے بھائی ہمام۔۔۔ یعنی زیر اشاعت صحیح کے مؤلف۔۔۔ سے روایت کی ہے، کہتے ہیں: "میں نے ابو ہریرہؓ کو کہتے سنا کہ نبی ﷺ کے صحابہ میں آپ ﷺ کی حدیثیں بیان کرنے والا مجھ سے زیادہ کوئی نہیں، بجز عبد اللہ بن عمرو کے کیونکہ وہ (بروقت) لکھا کرتے تھے، اور میں نہیں لکھتا تھا۔۔۔" یہی حدیث عمر بن ہمام سے (اور انہوں نے) ابو ہریرہؓ سے بیان کی ہے۔ "عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ نے اپنے پاس جمع کردہ ذخیرہ حدیث کا نام "الصحیفة الصادقة" رکھا۔۔۔" کہتے ہیں کہ اس میں ایک ہزار حدیثیں تھیں^(۲)۔ یہ نسخہ ان کے خاندان میں عرصے تک محفوظ رہا، چنانچہ ان کے پوتے عمرو بن شعیب، اسی کوہاٹھ میں رکھ کر روایت کرتے اور درس دیتے تھے^(۳)۔ اللہ امام احمد بن حنبل پر ہزار حجتیں نازل فرمائے کہ انہوں نے۔۔۔ صحیفہ ہمام ہی کی طرح، جس کا ہم آگے ذکر کریں گے۔۔۔ اس کو بھی اپنی ضخیم قابل تقدیر "مسند" میں مدغم فرمایا کہ ہمارے لئے محفوظ فرمادیا ہے۔ عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ کی تالیف کا ذکر ابن منظور نے (اسان العرب،

(۱) بخاری، کتاب العلم باب کتابۃ العلم، نیز مصنف عبد الرزاق الجزا الرائع باب کتاب العلم، عبد الرزاق نے عمر سے اور انہوں نے راست ہمام بن منبہ سے اور انہوں نے ابو ہریرہؓ سے سناد۔

(۲) طبقات ابن سعد ۲/۲ ص ۹۵۸۔

(۳) اسد الغایب لابن الاشیر جلد سوم ص ۲۳۳ جہاں یہ الفاظ میں "قال عبد الله حفظت عن النبي ﷺ" مذکور ہے۔ اسی مذکور ہے ضرب المثلیں مراد نہیں ہیں۔ اس حوالے میں کتاب یا صحیفہ صادقہ کا بھی صراحت سے ذکر نہیں ہے۔

(۴) تہذیب التہذیب لابن حجر جلد هشتم ص ۲۳۸ نمبر (۸۰)

مادہ "ظہم" میں بھی کیا ہے: "حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ایک دن ہم لوگ عبد اللہ بن عمروؓ کے پاس تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کون شہر پہلے فتح ہو گا، قسطنطینیہ یا روم؟ اس پر انہوں نے ایک پرانی صندوق منگوائی، اس میں سے ایک کتاب نکال کر اس پر نظر ڈالی پھر کہا: ایک دن ہم نبی کریم ﷺ کے پاس (بیٹھے) تھے اور جو کچھ فرمائے تھے، لکھتے جا رہے تھے۔ اس اثناء میں آپ ﷺ سے پوچھا گیا: کون شہر پہلے فتح ہو گا، قسطنطینیہ یا روم؟ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر قل کے بیٹھے کا شہر پہلے فتح ہو گا، یعنی قسطنطینیہ۔" اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عبد اللہ بن عمروؓ نہیں، صحابہ کی ایک جماعت کی جماعت ملفوظات نبوی کو لکھا کرتی تھی اور یہ خود رسول اکرم ﷺ کے روبرو۔ عبد اللہ بن عمروؓ بڑے عابد و زادہ تھے۔ باپ سے بھی پہلے مسلمان ہوئے۔ ذوق علم میں سریانی زبان سیکھ لی تھی^(۱) یہ ۲۵۰ھ میں بہتر سال کی عمر میں فوت ہوئے۔^(۲)

(ج) آس حضرت ﷺ سے آپ کے آزاد کردہ غلام اور خادم ابو رافع نے بھی احادیث لکھ لیا کرنے کی اجازت مانگی تو آپ نے انہیں اس کی اجازت دی^(۳)۔ یہ اصل میں قبطی یعنی مصری تھے اور شروع میں حضرت عباسؓ کے غلام تھے^(۴)۔ مسلمان ہوئے تو حضرت عباسؓ نے انہیں رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں بطور تخفہ پیش کر دیا اور آپ ﷺ نے انہیں فوراً آزاد کر دیا۔ بظاہر یہ ۸۰ھ کا واقعہ ہے کیونکہ آس حضرت ﷺ کا ان کو دیا ہوا پرواہ آزادی محفوظ ہے^(۵)۔ اور اس کے آخر

(۱) طبقات ابن سعد جلد چہارم حصہ دوم ص ۱۱۸۔

(۲) ایضاً ص ۱۳۔

(۳) زیر صدقی، حوالہ بالا۔

(۴) الروض الانف اہمیتی ص ۸۲/۲۔

(۵) کتابی ۲۷۳/۲ ص ۲۷۵۔

میں ہے ”اسے معاویہ بن ابی سفیان نے لکھا“ حضرت معاویہؓ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے تھے۔ سنن ابو داؤد^(۱) میں یہ بھی لکھا ہے کہ قریش نے انہیں غالباً ان کی کارروائی و معاملہ فہمی کی بناء پر، سیفربنا کر اس حضرت ﷺ کے پاس بھیجا (اسد الغابہ جلد اول ص ۷۷) کے مطابق یہ قدیم الاسلام میں غزوہ احد میں شرکت کی تھی، واللہ اعلم)

(د) ان سب سے اہم حضرت انس بن مالک انصاریؓ کا واقعہ ہے۔ جب رسول اکرم ﷺ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو نو عمر انس کو جو دس برس کی عمر ہی میں لکھا پڑھنا جانتے تھے^(۲)۔ ان کے والدین نے وفور عقیدت سے حکم دیا کہ رسول کریم ﷺ کی خادمی انجام دی، چنانچہ انس رات دن رسول اللہ ﷺ کے مکان میں رہتے اور صرف اسی وقت وہاں سے نکلے جب دس سال بعد رسول اکرم ﷺ نے وفات پائی۔

اس کے بعد انسؓ بہت دن (۶۹ھ) تک زندہ رہے۔ ظاہر ہے کہ انہیں رسول اللہ ﷺ کی وہ باتیں دیکھنے اور سننے کا موقع ملا جو کسی اور کو آسانی سے نہیں مل سکتا تھا۔ دارمی کی روایت ہے کہ بعد میں انسؓ اپنے بچوں کو ہمیشہ تاکید کیا کرتے تھے کہ ”اے میرے بچو! اس علم یعنی حدیث کو قلم بند کرلو“ دارمی ہی نے ایک اور روایت کی ہے کہ: ”میں نے دیکھا کہ آبان (ایک دن) انسؓ کے پاس بیٹھے (حدیث) لکھ رہے تھے۔“ ان کے بچے اور شاگرد کیوں نہ لکھتے جب انسؓ خود اور وہ سے زیادہ تدوین حدیث میں مشغول رہے تھے، چنانچہ محمد میں کی ایک جماعت^(۳) نے سعید بن ہلال کی زبانی یہ روایت نقل کی ہے کہ: جب ہم انس بن مالکؓ سے زیادہ اصرار کرتے تو وہ ہمارے لئے ایک چونگہ نکلتے اور کہتے کہ یہ وہ (حدیثیں) ہیں جو میں نے بی ﷺ سے سئیں اور آپ ﷺ پر

(۱) سنن ابی داؤد کتاب الجنحہ باب فی الامام یُستَحْجَنُ بہ فی العہود۔

(۲) اسد الغابہ جلد اول ص ۱۲۸ (بخاری مولانا نسیم الدین احمد بن حبیل و ابو داؤد و نسائی)

(۳) المستدرک للحاکم وغیره (بخاری مولانا ناظر احسن گیلانی) ”تدوین حدیث“ حاضرہ اول۔

پیش کی ہیں۔ ”یہاں دیکھا جائے گا کہ وہ سنی یاد کیکھی ہوئی یا توں کو صرف قلم بند ہی نہیں کرتے تھے بلکہ اسے خود جناب رسالت کی خدمت میں پیش کرتے اور حسب ضرورت تصحیح و اصلاح کر لیتے۔

عبد نبوی ہی میں صحابہؓ کرام کے ہاتھوں تدوین حدیث ہونے کے جو واقعات ملتے ہیں، یہ ان میں سے چند ہیں۔ آپ ﷺ کی وفات کے بعد صحابہؓ کرام کا اپنی یادداشتوں کو قلم بند کرنا مختلف وجود سے روزافزوں ہی ہو گیا۔ ان میں سے چند واقعات ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔

ایک صحابی کی تایف:

یہ مشہور واقعہ ہے کہ آس حضرت ﷺ نے جب عمرو بن حزم کو یہیں کا عامل (گورنر) بنا کر بھیجا تو انہیں ایک تحریری ہدایت نامہ دیا^(۱) جس میں جو احکام اور ہدایات دینی تھیں، درج فرمائیں۔ عمرو بن حزم نے اس قیمتی دستاویز کو نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ اکیس دیگر فرمانیں نبوی بھی فراہم کئے۔ جو بنی عاد یا بنی عریض کے یہودیوں، تمیم داری، قبائل جہیذہ و جذام وطنی و ثقیف وغیرہ کے نام موسومہ تھے اور ان سب کی ایک کتاب تایف کی جو عبد نبوی کے سیاسی دستاویزوں یا سرکاری پرونوں کا اولین مجموع خیال کیا جاسکتا ہے۔ اس کی جو روایت تیسری صدی ہجری میں دہبل (پاکستان) کے مشہور محدث ابو جعفر الدہبلی نے کی ہے۔۔۔ اور جن حالات انساب سمعانی دہبلی، اور مجتمع البلدان یا قوت دہبل میں بھی ملتے ہیں۔۔۔ محفوظ ہے اور ہم تک پہنچی ہے،

(۱) متن کے لئے الوثقیل الشیعیہ (۱۰۵) بخواہ طبری وغیرہ نیز مندرجہ بن حبیل و ابو داؤد و نسائی کے باب الدیات۔

بھی درس لیا اور ان کے "صحیفہ" کی روایت کی ہے^(۱) -

(ب) ام المومنین حضرت عائشہؓ کو پڑھنا تو آتا تھا لیکن خود لکھتی نہ تھیں۔ روایت ہے کہ ان کے بھانجے، عروہ بن الزیر نے ان کی نیز دیگر صحابہ کی حدیثیں لکھی تھیں جو جنگ حرہ میں تلف ہو گئیں۔ بعد میں یہ پچھلتایا کرتے کہ کاش! میں اپنے بال بچوں اور اپنے مال و اساب کو ان کتابوں کے عوض فدا کر دیتا^(۲)۔ عائشہ صدیقہؓ کے اور بھی شاگرد تھے۔ ان میں ایک خاتون عمرہ بنت عبد الرحمن ہیں جن کو انہوں نے بچپن ہی سے پال لیا اور تعلیم و تربیت دی تھی۔ یہ تو معلوم نہیں کہ عمرہ خود کچھ لکھتی تھیں یا نہیں، لیکن خلیفہ عمر بن عبد العزیز نے اپنے مدینہ کے عامل (گورنر) ابو بکر محمد بن عمرو بن حزم کو۔۔۔ جو عمرہ کے بھانجے تھے۔۔۔ ہدایت بھیجی تھی کہ "عمرہ بنت عبد الرحمن اور قاسم بن محمد کے پاس جو علم (یعنی ذخیرہ احادیث) ہے، اسے قلم بند کریں"^(۳)۔

(۱) حوالہ بالازار ابن حجر، نیز مناظر احسن گیلانی۔

(۲) طبقات ابن سعد جلد ۵ ص ۱۳۳۔ تہذیب التہذیب لاہور حجرے ۱۸۳ نمبر (۳۵۱) نیز مصنف عبد الرزاق الجزری ارجمند باب تحریر اکتب۔

(۳) مناظر احسن گیلانی مقالہ بالا بحوالہ بخاری و ابن حجر عسقلانی، ان کے علاوہ بھی مزید حدیثیں میں تو خلیفہ عمر بن عبد العزیز (الله علیہ السلام) نے سرکاری طور پر ان حدیثوں کو بھی لکھتے کا باقاعدہ اعتمام فرمایا تھا چنانچہ امام مالک (۹۰-۱۴۹ھ) اور امام بخاری (۷۰۷-۱۳۲ھ) یا ان کرتے ہیں۔

وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَيْيَنِ بَكْرِ بْنِ حَزَمَ أَنْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حِلْوَى شَرَبَهُ وَسُولِ اللَّهِ عَلِيِّهِ سَلَّمَ فَأَكْتَبَهُ فَأَتَى حِفْتُ دُرُونَ الْعِلْمِ وَدَهَابَ الْعَلَمَاءِ وَلَا تَقْبَلُ إِلَّا حِدْيَةُ النَّبِيِّ عَلِيِّهِ سَلَّمَ وَلَيَقْسِمُوا الْعِلْمَ وَلَيَحْلِمُوا حَتَّى يُعْلَمُ مَنْ لَا يَعْلَمُ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونُ مِرْأً.

عمر بن عبد العزیز نے ابو بکر بن حزم (مدینہ کے گورنر) کو لکھا۔ دیکھو، رسول اللہ علیہ السلام کی جو حدیثیں تم کو میں ان کو لکھ لو کیونکہ میں ذر تابوں کہ کہیں علم دیں مٹنے جائے

چنانچہ "اعلام السائلین عن کتب سید المرسلین" کے نام سے ابن طولون نے جو کتاب تالیف کی۔۔۔ اور جس کا نسخہ بخط مؤلف کتب خانہ "المجمع العلمی" دمشق میں محفوظ ہے۔ نیز جو چھپ بھی گئی ہے۔۔۔ اس میں حضرت عمرو بن حزمؓ کی یہ تالیف بطور ضمیمه شامل اور محفوظ کر دی گئی ہے۔

عبد صحابہ میں عام مدوین حدیث:

(الف) صحیح مسلم^(۱) کی روایت ہے کہ جابر بن عبد اللہؓ نے حج پر ایک رسالہ تالیف کیا تھا۔ ممکن ہے اس میں خطبہ حجۃ الوداع اور مناسک حج کے متعلق دیگر حدیثیں جمع کی گئی ہوں۔ (اسے منداہن حنبل، باب جابر میں تلاش کر سکتے ہیں) یہ بھی مشہور ہے کہ مسجد نبوی (مدینہ) میں ان کا ایک حلقہ درس تھا جس میں لوگ ان سے علم حاصل کرتے تھے^(۲)۔ چنانچہ مشہور تابعی مورخ وہب بن منبہ (ہمام بن منبہ کے بھائی) کو بھی انہوں نے حدیثیں املاع کرائی تھیں^(۳) امام بخاری کی روایت ہے کہ^(۴) مشہور تابعی قادہ کہا کرتے تھے۔ "مجھے سورہ بقر کے مقابلے میں صحیفہ جابر زیادہ حفظ ہے۔ ان کے ایک اور شاگرد سلیمان بن قیس الیشکری کہتے تھے کہ انہوں نے بھی حضرت جابرؓ کی روایت کردہ حدیثیں لکھی ہیں^(۵)۔ حضرت جابرؓ سے اور لوگوں نے

(۱) بحوالہ مولانا مناظر احسن گیلانی "مدوین حدیث" ۱/۱۰، مصنف عبد الرزاق میں بھی "صحیفہ جابر بن عبد اللہ" کا حوالہ موجود ہے اور میر نے اس سے روایتیں بیان کی ہیں مثلاً کیجھے مصنف مذکور باب الذنب۔

(۲) اصحاب حج اس ۳۳۳ ص

(۳) وہب بن منبہ کے شاگرد تھے۔

(۴) التاریخ الکبیر للبخاری جلد ۲ ص ۱۸۲ (بحوالہ مناظر احسن گیلانی مقالہ بالا)

(۵) تہذیب التہذیب لاہور حجرے ۳۲۵/۲۱۵

یہ قاسم بن محمد، ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کے بھتیجے تھے۔ بیتِ ہونے کے باعث بی بی نے ان کو گودلے لیا اور خود پالا پرورش کیا تھا۔ یہ بڑے عالم گزرے ہیں اور عالم چل بے اور صرف رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہی کو لینا اور عالموں کو چاہنے کے علم پھیلائیں اور تعلیم دینے کے لئے بیٹھا کریں تاکہ جس کو علم نہیں وہ علم حاصل کر لے کیونکہ جہاں علم پوشیدہ رہا پس مٹ گیا۔

(بخاری) ا، کتاب العلم، نیز موطا المام بالکتاب (علم)
خلیفہ عمر بن عبد العزیز کے فرمان کی تقلیل میں ابو بکر بن حزم کے شاگرد ابن شہاب زہری (۱۵۶ھ تا ۲۱۴ھ) نے حدیثوں کے جمع کرنے کا کام شروع کیا۔ بخاری کے مشہور شارح حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب فتح الباری شرح بخاری میں ابو الحیم کی تاریخ اصحابہ کے حوالے سے یہ بیان نقل کیا ہے کہ عمر بن عبد العزیز کا یہ حکم صرف مدینہ اور مدینہ کے گورنر کے ساتھ ہی مخصوص نہ تھا بلکہ انہوں نے اسلامی مملکت کے تمام صوبوں کے گورنزوں کے نام اسی قسم کا فرمان کیجھا تھا۔

كتب عمر بن عبد العزير إلى الأقلي أنظروا حديث رسول الله عليه السلام فاحمروه.

(ابن حجر فتح الباری) اسے امطبوع)

عمر بن عبد العزیز نے تمام مملکت میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کی حدیث تلاش کرو اور ان کو جمع کرو۔

حافظ شمس الدین ذہبی اور حافظ ابن عبد البر کے بیان کے بوجب احادیث اور سنن کے دفاتر مرتب ہو کر اور الخلافہ دمشق آئے اور خلیفہ عمر بن عبد العزیز نے ان کی تقلیل مملکت اسلامیہ کے گوشہ گوشہ میں بھیجیں، چنانچہ سعد بن ابراء کی روایت کرتے ہیں کہ:

أمرنا عمر بن عبد العزير بجمع السنن فكتبتها هادفرا دفتر، قبعت إلى كل أرض له سلطان دفتر.

ہم کو عمر بن عبد العزیز نے احادیث جمع کرنے کا حکم دیا اور ہم نے دفتر کے دفتر حدیثوں

لکھیں۔ انہوں نے جہاں جہاں ان کی حکومت تھی وہاں وہاں ہر جگہ ایک گھومند بھیجا۔

(ذہبی: تذكرة الحفاظ) اس ۱۰۶ مطبوعہ دائرة المعارف جیدر آباد)

نیز ابن عبد البر: مختصر جامع بیان العلم ص ۳۸ مطبوعہ مصر۔

چنانچہ ابو عینیہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہؓ کی حدیثوں کو سب لوگوں سے زیادہ جانے والے عمرہ اور قاسم بن محمد تھے^(۱)۔ بی بی عائشہؓ کے علم و فضل کے کیا کہنے، حدیث، فقہ، شاعری، انساب، تاریخ عرب اور طب غرض ہر فن میں طاق تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ آپ کی قانون دانی اور نکتہ رسمی کا لامہ مانتے تھے۔

(ج) روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے بھی احادیث نبویہ جمع کی تھیں اور اس رسائل میں پانچ سو ۵۰۰ حدیثیں تھیں، پھر خود آپ ہی نے یہ سوچ کر اسے تلف کر دیا کہ کہیں یاد کی سہو سے کوئی غلط لفظ آس حضرت ﷺ کی طرف منسوب نہ ہو گیا ہو چنانچہ تذکرۃ الحفاظ میں قاسم بن محمد کی روایت ہے:

قالَتْ عَائِشَةُ: جَمَعَ أَبِي الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَانَ
خَمْسَ مِائَةً حَدِيثٍ. فَبَاتَ لَيْلَةً يَتَقَلَّبُ كَثِيرًا، قَالَتْ : فَعَمَّنِي
فَقُلْتُ : اتَّقْلِبُ لِشَكُورٍ أَوْ بِشَيْءٍ يَأْلَغُكَ؟ فَلَمَّا أَصْبَحَ : قَالَ : أَيُّ
بُنْيَةُ! هَلْمَى الْأَحَادِيثَ الَّتِي عِنْدِكَ فَجَعَتْهُ بِهَا، فَدَعَابِنَارَ فَحَرَقَهَا.
فَقُلْتُ : لِمَ حَرَقْتَهَا؟ قَالَ : خَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ وَهِيَ عِنْدِي فَيَكُونُ
فِيهَا أَحَادِيثٌ عَنْ رَجُلٍ قَدْ أَشْمَمْتُهُ وَرَفِقُتُ وَلَمْ يَكُنْ كَمَا حَدَّثْتُ
فَإِنْ كُوْنَ فَدَنَقْتُ ذَلِكَ فَهَذَا لَا يَصْحُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.^(۲)

حضرت عائشہؓ نے کہا کہ میرے باپ نے رسول اللہ ﷺ کی پانچ سو (۵۰۰) حدیثیں جمع کیں۔

پھر ایک رات بڑی بے چینی سے کروٹیں بدلتے گے۔

(۱) تہذیب التہذیب لابن حجر ۱/۸۲ نمبر ۵۵۔

(۲) الذہبی: تذکرۃ الحفاظ ۱/۵ مطبوعہ دائرة المعارف جیدر آباد کن۔

مشورہ دیا کہ احادیث کو لکھ لیا جائے پھر حضرت عمرؓ ایک ماہ تک استخارہ کرتے رہے پھر ایک دن صبح میں اٹھے اور انہوں نے اس کا ارادہ کر لیا تھا پھر فرمایا کہ میں احادیث کو لکھ لینے کا ارادہ کر رہا تھا پھر بعد میں مجھے اس قوم کا خیال آیا جو ہم سے پہلے گذری اس نے خود ایک کتاب لکھی اور (اس جانب ہمہ تن اس قدر متوجہ ہو گئی کہ) اللہ کی کتاب ہی کو چھوڑ دیا۔

(ه) حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق بخاری^(۱) میں یہ روایت ملتی ہے کہ ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے علی بن ابی طالب سے پوچھا: کیا آپ کے پاس کوئی کتاب ہے؟ کہا: نہیں، بجز کتاب اللہ (قرآن) کے یا ایسی سمجھے کے جو کسی مسلمان شخص کو حاصل ہو اور جو کچھ اس صحیفے میں ہے! ابو جحیفہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا: تو پھر اس صحیفے میں کیا ہے؟ کہا: خوش بہا اور قیدیوں کو رہا کرنے (کے قواعد) اور یہ کہ کسی مسلمان کو کسی کافر کے باعث قتل نہ کیا جائے۔“ ایک اور روایت^(۲) کے الفاظ بخاری میں یوں ہیں: ”حضرت علیؑ نے ہمارے سامنے خطبہ دیا اور کہا ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے جسے ہم پڑھیں، بجز کتاب اللہ (قرآن) کے یا جو اس صحیفے میں ہے اور کہا کہ اس میں زخم کے ہر جانے کے قواعد (جراحات)، اونٹوں کی عمریں (بغرض زکوٰۃ) ہیں اور یہ درج ہے کہ مدینہ جبل عیر سے فلاں مقام تک حرم ہے جو کوئی وہاں قتل کا ارتکاب کرے، یا قاتل کو پناہ دے تو اس پر اللہ، فرشتوں، انسانوں سب ہی کی لعنت ہے۔ (قیامت کے دن) اس سے کوئی رفتی معاوضہ یا بدله قبول نہیں کیا جائے گا اور جو

(۱) بخاریؑ اکتاب العلم، باب کتابة العلم۔

(۲) صحیفہ بخاریؑ، ابواب الجہاد والسبیر، باب ذمۃ المسلمين۔

حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ اس سے مجھے بہت رنج ہوا۔ میں نے کہا کہ آپ مرض کی وجہ سے کرتے ہیں یا کوئی اور بات ہے؟ جب صبح ہوئی تو مجھ سے کہا کہ بیٹی! تمہارے پاس جو حدیث کی کتاب ہے وہ لے آؤ۔ چنانچہ میں وہ لے آئی تو آپ نے آگ منگا کر اسے جلا دیا۔ میں نے کہا آپ نے اسے کیوں جلا یا؟ فرمایا کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ میں مر جاؤں اور یہ کتاب چھوڑ جاؤں شاید اس میں کسی ایسے شخص کی بھی حدیث ہو جو میرے نزدیک تو معترض ہو اور وہ حقیقت میں معترض ہو اور میں نے اس کو نقل تو کر دیا اور وہ صحیح نہ ہوا اور اللہ بہتر جانتا ہے۔

(د) حضرت عمر فاروقؓ نے مجھی احادیث نبویہ کو حکومت کی جانب سے جمع کرنے کا اہتمام کیا اور صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور ان سب نے احادیث کو لکھ لینے کا مشورہ دیا لیکن پھر آپ نے یہ ارادہ منسوخ کر دیا چنانچہ محدث عبد الرزاق بن ہمام الصنعتی الیمانی اپنے مصنف میں لکھتے ہیں:

أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَكْتُبَ سُنْنًا فَاسْتُشَارَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي ذَالِكَ، فَاشَارُوا عَلَيْهِ أَنْ يَكْتُبَهَا فَطَلَّقَ يَسْتَحْرِرُ اللَّهُ فِيهَا شَهْرًا ثُمَّ أَصْبَحَ يَوْمًا وَقَدْ عَزَمَ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْتُبَ السُّنْنَ وَإِنِّي ذَكَرْتُ قَوْمًا كَانُوا قَبْلَكُمْ كَتَبُوا كِتَابًا وَأَرَكُوا كِتَابَ اللَّهِ^(۱)

حضرت عمرؓ نے احادیث کو ایک کتاب میں لکھنے کا ارادہ کیا اور رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ سے اس بارے میں مشورہ کیا اور انہوں نے

(۱) مصنف عبد الرزاق، باب کتاب العلم (محفوظ ترکی و حیدر آباد کن)

معاہداتی بھائی اپنے معاہداتی بھائی (فریق ٹالی) کی اجازت کے بغیر کسی اور گروہ سے معاہداتی بھائی چارہ اختیار کرے تو اس پر بھی اسی طرح (لعنت) ہے۔ مسلمانوں (میں سے ہر ایک) کی ذمہ داری ایک ہی ہے (یعنی ایک کا دیا ہوا من سب پر پابندی عائد کرتا ہے) جو کسی مسلمان سے عہد شکنی کرے تو اس پر بھی اسی طرح (لعنت) ہے۔ بخاری ہی کی ایک اور روایت^(۱) اس سے ذرا زیادہ مفصل ہے۔ اس کا درمیانی فقرہ یوں ہے: ”مسلمانوں کی ذمہ داری ایک ہی ہے۔ ان میں سے جو قریب ترین ہو وہ اس کی (تجھیل کی) کوشش کرے گا اور جو کوئی کسی مسلمان سے عہد شکنی کرے گا تو اس پر لعنت، وغیرہ۔۔۔ غالباً اس سے مراد دستور مدینہ^(۲) ہے۔ جس کا اور پڑ کر آیا ہے اور جو سے^(۳) میں رسول اکرم ﷺ نے نافذ فرمایا۔ محلہ قواعد اس میں موجود ہیں۔ اس واقع کی ایک دوسری روایت جو مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعتی^(۴) میں ہے اور جو امام جعفر صادقؑ سے مردی ہے، یہ ہے ”جعفر بن محمد نے اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ انہیں رسول اکرم ﷺ کی تلوار کے قبضے پر ایک صحیفہ بندھا ہوا ملا۔ اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ پر سب سے زیادہ گراں وہ شخص گزرتا ہے جو ایسے آدمی کو قتل کرے جو اسے قتل نہ کر رہا ہو اور ایسے آدمی کو مار پیٹ کرے جو اسے مار پیٹ نہ کر رہا ہو اور یہ کہ جو کسی قاتل کو پناہ دے تو قیامت کے دن اللہ اس سے کوئی رحمی معاوضہ یا بدله قبول نہ کرے گا“۔۔۔ اس اقتباس کا پہلا جز (اطور

(۱) ایضاً باب إثام من من عاهد ثم غدر۔

(۲) دنیا کا پہلا ”حریری دستور مملکت“ (درکتاب: عہد نبوی کا نظام حکمرانی)

(۳) مصنف عبد الرزاق جلد دوم باب النہیۃ و من آؤی محدثاً ”محفوظ حیدر آباد و ترکی“ اس حوالے کے لئے میں ڈاکٹر محمد یوسف الدین کا ممنون ہوں، امتاع مقریزی (۱/۱۰) میں صراحت ہے کہ دستور مدینہ رسول اکرم ﷺ کی تلوار پر اتفاق رہتا تھا۔

ترشیح) اور دوسرا جز تقریباً بلفظ نہ کورہ دستور مدینہ سے ماخوذ ہے۔ ایک تیسری روایت سنن ابی داؤد^(۱) میں ہے جو یہ ہے: علیؑ سے مردی ہے: ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ارشادات سے بجز قرآن اور اس چیز کے جواب صحیفے میں ہے، کچھ نہ لکھا، کہا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مدینہ جبل عازم سے جبل ثور^(۲) تک ایک حرم ہے جو کوئی قتل کا ارتکاب کرے یا قاتل کو پناہ دے تو اس پر اللہ، فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت ہے۔ اس سے کوئی بدله یا رحمی معاوضہ قبول نہ ہو گا جو کسی مسلمان سے عہد شکنی کرے تو اس پر اللہ، فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت ہے۔ اس سے کوئی بدله یا رحمی معاوضہ قبول نہ ہو گا اور جو معاہداتی بھائی اپنے معاہداتی بھائی کی اجازت کے بغیر کسی اور گروہ سے معاہداتی بھائی چارہ اختیار کرے تو اس پر اللہ، فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت ہے۔ اس سے کوئی بدله رحمی معاوضہ قبول نہ ہو گا۔

ابن المثنی بیان کرتے ہیں۔۔۔ اس قصے میں علیؑ نے نبی ﷺ سے روایت کی ہے کہ فرمایا: اس (حرب مدینہ) کا نہ گھاس کاٹا جائے نہ شکار بھڑکایا جائے۔ نہ کوئی لقطہ (کسی کی گری پڑی چیز) اٹھائی جائے بجز اس کے کہ مالک کی تلاش میں عموم کو اطلاع دی جائے، اسی طرح کسی شخص کے لئے یہ درست نہیں کہ لڑائی کے لئے وہاں ہتھیار اٹھائے اور نہ یہ درست ہے کہ وہاں کوئی درخت کاٹے بجز اس کے کہ کوئی شخص اپنے اونٹ کو چارہ دے۔۔۔ یہ اقتباسات بھی دستور مدینہ کا کہیں بلفظ انتخاب اور کہیں شرح ہیں۔

یہ امر قابل ذکر ہے کہ صحیح بخاری کے ایک اور باب (یعنی کتاب الاعتراض

(۱) سنن ابی داؤد کتاب المناک باب فی تحریم المدینۃ۔

(۲) جبل عازم یا عیر مدینے کی جنوبی حد ہے اور جبل ثور (جو احمد کے مغرب میں ہے) اٹھائی حد ہے۔

نقش کے لئے یہری کتاب ”عہد نبوی کے میدان جنگ“ ملاحظہ ہو۔

بالکتاب والسنۃ)^(۱) میں اس واقع کی جو تفصیل ملتی ہے، اس سے گمان ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ صحیفہ کافی طویل تھا اور وہ کم سے کم چار سرکاری دستاویزوں کا مجموعہ تھا یعنی جدول زکوٰۃ، مدینے کو حرم قرار دینے کا اعلان، دستور مدینہ اور خطبہ جماعت الداع۔ ممکن ہے یہ دستاویزوں حضرت علیؓ نے آس حضرت علیؓ کے حکم سے لکھی ہوں اور مثلاً جدول زکوٰۃ کی نقلیں مختلف صوبوں میں بھیجی گئیں تو اصل مدینے ہی میں محفوظ رہی۔ اس سلسلے میں ہم نے خطبہ جماعت الداع کا بھی مذکورہ کیا ہے کیونکہ زیر بحث حدیث کا ایک جزء اس مشہور خطبے میں بھی ملتا ہے^(۲)۔ ممکن ہے کہ یہی جز خطبہ فتح مکہ میں بھی رہا ہے جو حضرت ابو شاہ کو لکھوا دیا گیا تھا جیسا کہ اوپر ذکر ہوا۔ یہ بھی گمان ہوتا ہے کہ حضرت علیؓ نے ان مختلف دستاویزوں کو ایک کے نیچے ایک چپاں کر کے پیٹ رکھا تھا۔ کتاب کی صورت میں جزء بندی نہ کی تھی۔ بہر حال بخاری کی زیر بحث حدیث یہ ہے علیؓ نے ہمیں مخاطب کیا، ایک منبر پر چڑھے جوانوں سے بنا ہوا تھا۔ آپ پر ایک تلوار لگی ہوئی تھی جس میں ایک صحیفہ لٹکا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا: اللہ کی قسم! ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے جو پڑھی جائے بجز کتاب اللہ (قرآن) کے یا جو کچھ اس صحیفے میں ہے۔ پھر آپ نے اسے پھیلایا (فشنسرہا) تو اس میں اونٹوں کی عمریں درج تھیں۔ اسی طرح اس میں لکھا تھا کہ عیر سے فلاں مقام تک مدینہ ایک حرم ہے جو کوئی اس میں قتل کا رنگ کرے تو اس پر اللہ، فرشتوں، انسانوں سب کی لعنت ہے۔ اس طرح اس میں لکھا تھا کہ مسلمانوں کی ذمہ داری واحد ہے جس کے لئے ان میں کا قریب ترین شخص جدوجہد کرے گا اور جو کوئی کسی مسلمان کے کئے ہوئے عہد کو

(۱) بخاری، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنۃ، باب ما یکرہ من النعم والتنازع في العلم حدیث نمبر۔ ۲

(۲) میں متن کیلئے دیکھئے: الوہائی السیارہ نمبر ۷/۲۸۔

توڑے تو اس پر اللہ، فرشتوں، انسانوں سب کی لعنت ہے۔ اللہ ایسے شخص سے کوئی بدله یا معاوضہ قبول نہ کرے گا۔ اسی طرح اس میں لکھا تھا کہ جو کسی گروہ سے اس کے مولاوں کی اجازت کے بغیر قانونی بھائی چارہ اختیار کرے تو اس پر اللہ، فرشتوں اور سب انسانوں کی لعنت ہے، اللہ ایسے سے کوئی بدله یا معاوضہ قبول نہ کرے گا۔

(ھ) حضرت عبد اللہ بن اوفیؓ بھی جو حدیثیں لکھا کرتے تھے اور ایسا نظر آتا ہے کہ وہ خط و کتابت کے ذریعے سے درس بھی دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ صحیفہ بخاری کے متعدد ابواب میں نظر آتا ہے، چنانچہ انہوں نے مشہور کتاب المغازی کے مؤلف موسی بن عقبہ سے روایت کی ہے کہ: عمر بن عبد اللہ کے مولیٰ (آزاد کردہ غلام) سالم ابو النصر جو اس (عمر بن عبد اللہ) کے کاتب تھے۔ مروی ہے کہ عبد اللہ بن اوفی نے خط لکھا اور میں نے وہ پڑھا۔۔۔۔۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں: ”جب وہ حرریوں سے لڑنے روانہ ہوا تو عبد اللہ بن اوفی نے اسے خط لکھا جسے میں نے پڑھا۔ اس میں لکھا تھا۔۔۔۔۔ کہ رسول اللہ ﷺ اپنے ایک غزوہ میں، جس میں دشمن سے دوچار ہوئے انتظار فرماتے رہے یہاں تک کہ آفتاب ڈھل گیا۔ پھر آپ ﷺ اٹھے اور لوگوں کو مخاطب فرمایا اور کہا: اے لوگو! دشمن سے دور چار ہونے کی متنانہ کرو بلکہ اللہ سے عافیت کے طلب گارہ ہو لیکن جب اس سے دوچار ہو جاؤ تو صبر و ثبات و کھاؤ اور جان لو کہ جنت تکواروں کے سامنے میں ہے۔ پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے کتاب کے نازل فرمانے والے، بادل کو چلانے والے اور متحده الشکروں (احزاب) کو شکست دینے والے اللہ، ان کو شکست دے اور ہم کو ان پر نصرت عطا فرمًا^(۱)۔

(۱) صحیفہ بخاری باب لا تَمُنَ القاء العدو، باب إِذَا لم يقاتل أَوْلَ النهار، باب الصبر عند القتال

(تین روایتیں)

(و) حضرت سمرہ بن جندب^(۱) نے بھی حدیثیں جمع کیں جوان کے بیٹے سلمان بن سمرہ کو وراثت میں ملیں۔ ابن حجر^(۲) نے لکھا ہے کہ ”سلمان نے اپنے باپ کے حوالے سے ایک بڑا رسالہ (نختہ کبیرہ) روایت کیا ہے۔“ نیز ”ابن سیرین کہتے ہیں کہ سمرہ نے اپنے بیٹوں کے لئے جو رسالہ لکھا اس میں بہت علم (علم کثیر) پالیا جاتا ہے^(۳)۔

(ز) حضرت سعد بن عبادہ انصاری^(۴) تو زمانہ جاہلیت میں بھی لکھنا پڑھنا جانتے بغیرہ کے باعث ”مرد کامل“ سمجھے جاتے تھے^(۵)۔ ان کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں انہوں نے احادیث نبوی جمع کی تھیں۔ اس کی روایت ان کے بیٹے نے کی ہے^(۶)۔

(ح) معلوم نہیں حضرت عبد اللہ بن عمر^(۷) نے خود کوئی حدیثیں لکھیں یا نہیں۔ لیکن طبقات ابن سعد میں سلمان بن موکی کی روایت ہے کہ ”ابن عمر کے مولیٰ یعنی نافع کو دیکھا کہ ابن عمر^(۸) سے املاع کراہے تھے اور نافع لکھتے جا رہے تھے۔“ نافع ایک بہت بڑے عالم اور حضرت ابن عمر^(۹) کے سب سے قابل شاگرد تھے اور اپنے استاد (ابن عمر^(۱۰)) کی محبت میں پورے تھے (۲۰) سال گزار چکے تھے۔ ناگزیر انہوں نے اپنے استاد کے سارے معلومات حاصل کرنے ہوں گے۔ حضرت ابن عمر^(۱۱) سے فرمایا کرتے

(۱) ابن حجر: تہذیب التہذیب ۱۹۸/۳

(۲) ابن حجر: تہذیب التہذیب ۲۳۶/۳ نمبر (۲۰۱)

(۳) ابن سعد، طبقات جلد سوم حصہ دوم ص ۱۳۲، تہذیب التہذیب ۲۷۵/۳ نمبر (۸۸۳) جو لوگ لکھنے پڑھنے کے ساتھ ساتھ تیر اندازی اور پیر اکی جانتے تھے انہیں کامل کہا جاتا تھا۔ چنانچہ سورخ بلاذری کا بیان ہے کہ ”سعد بن عبادہ، اسید بن حضیر اور عبد اللہ بن ابی اور اوس بن خولی کا قل تھے یعنی ستابت کے ساتھ تیر اندازی اور شناوری بھی جانتے تھے“ (بلاذری: فتوح البلدان ص ۲۷۳) خط کی ابتداء۔

(۴) مناظر احسن گیلانی مقالہ بالا (بخاری ترمذی، کتاب الاحکام)

تھے کہ ”نافع کا وجود ہم پر اللہ کا ایک بڑا احسان ہے“^(۱)۔

(ط) حضرت عبد اللہ بن عباس^(۲) کی علمی زندگی اتنی مشہور ہے کہ اس کی تفصیل کی حاجت نہیں۔ یہ تواتر سے ثابت ہے کہ ان کی وفات ہوئی تو اتنی تالیفیں چھوڑیں کہ ایک اونٹ پر لاڈی جائیتی تھی۔ ترمذی^(۳) نے ان کے مولیٰ اور شاگرد عکرمہ کے حوالے سے روایت کی ہے کہ کچھ اہل طائفہ ابن عباس^(۴) کے پاس آئے اور ان کی کتابوں کو نقل کرنا چاہا چنانچہ ابن عباس^(۵) ان کو پڑھ کر املاع کراتے گئے ”دارمی، ابن سعد، وغیرہ^(۶) نے ان کے ایک اور شاگرد سعید بن جبیر سے روایت کی ہے کہ ابن عباس^(۷) جو املاع کراتے تھے، اسے وہ لکھتے جاتے تھے۔ بعض وقت اثناء درس میں کاغذ ختم ہو جاتا تو وہ اپنے لباس پر، ہتھیاری پر، حتیٰ کہ اپنی چپل پر بھی لکھ لیتے پھر گھر جا کر اس کی نقل کر لیتے۔

یہ بھی اشارہ کیا جائیکتا ہے کہ علاوہ مستقل تالیفوں کے حضرت ابن عباس^(۸) حدیث کی خط و کتابت کے ذریعہ سے بھی تعلیم دیتے تھے چنانچہ سنن ابی داؤد میں ابن ابی ملکیہ کی روایت ہے کہ ابن عباس^(۹) نے مجھے لکھ بھیجا کہ ”رسول اللہ ﷺ نے فیصلہ فرمایا تھا کہ حلف مدعی علیہ کو دیا جائے گا“^(۱۰)۔

جب حضرت عبد اللہ بن عباس^(۱۱) کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے علی بن عبد اللہ اپنے باپ کی کتابوں کے وارث بنے اور اس طرح اس سرچشمہ علم کی فیض رسانی کا سلسلہ ان کے بعد بھی جاری رہا۔

(۱) تہذیب التہذیب لابن حجر ۱۰/۳۱۳ نمبر (۷۴۲)

(۲) ترمذی کتاب العلل (بخاری مناظر احسن گیلانی)

(۳) بخاری مناظر احسن گیلانی

(۴) سنن ابی داؤد، کتاب الاقضیہ، باب الیمن علی المدعی علیہ۔

بعض دیگر صحابہ:

(ی) مولوی عبد الصمد صارم صاحب نے اپنی کتاب اردو تالیف "عرض الانوار المعروف بتاریخ القرآن" (طبع دہلی ۱۹۵۵ھ) میں بھی اس موضوع پر چند معلومات لکھی ہیں^(۱)۔

افسوس ہے کہ اس میں حوالے ناتمام ہیں جن کے باعث تلاش آسان نہیں۔

بہر حال وہ لکھتے ہیں کہ انہیں "الجامع الصغیر" میں اس کا ذکر ملا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے جو حدیثیں جمع کی تھیں، وہ ان کے بیٹے کے پاس پائی گئیں۔ بعض دیگر تالیفین، جن کی طرف صارم صاحب نے اشارہ کیا ہے وہ وہی ہیں جن کا اپر ذکر آچکا ہے، البتہ انہوں نے سعد بن الربيع بن عمرو بن ابی زیبر انصاریؓ کی تالیف کا، کتاب اسد الغابہ کے حوالے سے جو ذکر کیا ہے، وہ ان کتابوں میں (جو حروف تہجی پر مرتب ہیں) متعلقہ ناموں کے تحت نہ ملا۔ ممکن ہے کسی اور کتاب میں انہوں نے یہ مذکورہ پڑھا ہو۔

(ک) صحیح بخاری کے "باب الذکر بعد الصلاة" میں مردود ہے کہ المغیرہ بن شعبہ نے حضرت معاویہؓ کو، بظاہر ان کی دریافت پر، بعض حدیثیں اپنے کاتب کو اماء کر کے روانہ کیں۔

(ل) رسول کریم ﷺ کے خادم حضرت ابو بکرۃ کے متعلق سنن ابی داؤد میں یہ واقعہ درج ہے کہ "عبد الرحمن بن ابی بکرہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے لکھ بھیجا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کوئی پیغامبیر کی حالت میں دو آدمیوں کے مقدمہ کا فیصلہ نہ کرے"^(۲)۔

(۱) ریکھتے عرض الانوار المعروف بتاریخ القرآن ص ۱۷۳ و ما بعد۔

(۲) سنن ابی داؤد، کتاب الاقضیہ باب القاضی یقضی و هو غضبان۔

تلاش پر توقع ہے کہ بعض اور صحابہ کی تحریری یا داشتوں کا بھی پتہ چلے۔ فی الحال ان نمونوں پر اکتفا کی جاتی ہے اور صرف ایک اور صحابی کا مزید ذکر کیا جاتا ہے جن سے زیر اشاعت رسالے کو خاص تعلق ہے۔

حضرت ابو ہریرہ الدوسری:

(م) یمن کے قبیلہ دوس سے تعلق رکھنے والے حضرت ابو ہریرہؓ نے اگرچہ بھرت نبوی کے کئی سال بعد یعنی مدینہ میں آگر اسلام قبول کیا تھا مگر قدیم تر زمانے میں مسلمان ہونے والے کے مقابلے میں احادیث نبوی کی زیادہ روایت کی ہے اس کی وجہ وہ خود بیان کرتے ہیں (جیسا کہ صحیح بخاری میں نقل ہوا ہے) کہ "ابو ہریرہ نے کہا: لوگ (اعتراف سے) کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ (حدیث کی روایت) بہت کرتا ہے! اگر کتاب اللہ میں دو آیتیں نہ ہوتیں تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا پھر وہ (ان الذین یکتمون ما آنزلنا میں الیٰ نات) سے لفظ "الرجیم" تک (قرآن سورہ ۲ آیت ۱۵۹ تا ۱۶۰) کی تلاوت کرتے (جس کا ترجمہ ہے: بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے کھلکھلی واضح باتوں اور ہدایت کے طور پر نازل کی ہے اور یہ اس امر کے بعد ہم نے اسے لوگوں کے لئے کتاب (قرآن) میں بیان کر دیا ہے تو ایسیوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے (لوگ یا فرشتے بھی) لعنت کرتے ہیں۔ بھر ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ اور اصلاح کر لی ہو اور بیان کرنے لگے ہوں تو ایسیوں کی توبہ میں قبول کرتا ہوں اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں) ہمارے مہاجر بھائی بازاروں میں خرید و فروخت میں مشغول رہتے تھے اور ہمارے انصاری بھائی اپنی زمینوں میں (زراعت و باغبانی کے) کام میں مشغول رہتے تھے تو ابو ہریرہ

پہیت بھرا ہن کر رسول اللہ ﷺ سے چمار ہتا تھا۔ وہ ایسے موتیوں پر حاضر ہتا تھا جب وہ حاضر نہیں رہتے تھے اور ایسی باتیں (دیکھ کر) یاد رکھتا تھا جن کا انہیں علم نہ ہوتا تھا^(۱)۔

حضرت ابو ہریرہؓ صَلَّى اللہُ عَلَيْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ سے صرف پڑھے لکھے تھے بلکہ انہیں علمی ذوق شروع ہی سے رہا۔ حیرت نہ ہو کہ یمن کے متدن اور ترقی یافتہ علاقے سے آرہے تھے، جہاں سبا دھیعن کا تمدن شہر روما کے قیام سے ہزاروں برس پہلے اونج عروج کو پہنچ چکا تھا اور جس کی روایتیں یہودی اور عیسائی حکومتوں^(۲) کے زمانے میں بھی مسلسل چلی آتی رہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نئے نئے مسلمان ہوتے ہی قرآن، حدیث، عام مشاہدات بارگاہ نبوی ہر چیز کو لکھنے لگے تو خلط بحث کر جانے کے خوف سے رسول اکرم ﷺ نے ان کو شروع میں قرآن کے سوا دوسرا چیزیں لکھنے سے منع کر دیا۔ جس پر انہوں نے اپنا ذخیرہ (جو غالباً اونٹ، بکری کی شانے کی بڈیوں وغیرہ پر مشتمل تھا) جلاڈا^(۳) لیکن بعد میں جب قرآن کو چھپی طرح حفظ کر لیا تو یہ ممانعت باقی نہ رہی۔

اگر عبد نبوی میں انہیں لکھنے، پڑھنے اور سیکھنے کا ایک بے پناہ شوق تھا، تو بعد کے دور میں اشاعت علم کا ذوق بھی کم نہ رہا۔ چنانچہ امام بخاری کے حوالے سے ابن حجر^(۴) نے لکھا ہے کہ ”ابو ہریرہؓ سے تقریباً آٹھ سو یا اس سے زیادہ صحابہ، تابعین اور دیگر اہل علم نے حدیث کی روایت کی ہے۔“

(۱) بخاری، کتاب العلم۔ باب حفظ العلم۔

(۲) ذنوواس اور ابرہہم کی طرف اشارہ ہے۔

(۳) مسن خبل جلد ۳ ص ۱۱۲ تا ۱۱۳ ایسی ہی ممانعت شروع میں ابو سعید الخدري کو بھی کی گئی (ترمذی، ابواب العلم، باب ماجاه فی کراہیہ کتابۃ العلم)

(۴) ابن حجر: تہذیب التہذیب ۲۶۵/۲ نمبر (۱۲۱۶)

ان کا حافظہ بہت اچھا تھا جیسا کہ آگے بیان ہو گا اور ساتھ ہی بہت کھرے تھے اور اپنی دانست میں جو بات حق سمجھتے، اس کے بیان کرنے میں بڑے چھوٹے کسی کی پرواہ نہ کرتے۔ لیکن حق پرست بھی تھے، اپنی غلطی دیکھ لیتے تو بلا تکلف پوری خوشی سے قبول کر لیتے۔ ان پر اور جو بھی اعتراض کیا جائے، ان کی دیانت و صداقت خفیف ترین شاہے سے بھی قطعاً پاک ہے۔ عہد صحابہ میں بعض وقت ان پر کچھ گرفت ہوئی۔ تو ان کی صلاحیت استنباط یا فتنہ دانی کے متعلق تھی۔ ایک چھوٹے واقعے سے اس کا اندازہ ہو گا۔ انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ کھانے سے فراغت کے بعد رسول اکرم ﷺ نے اولاً وضو فرمایا پھر نماز اداء کی۔ انہوں نے اس چشم دید واقعے کی بناء پر یہ مسئلہ یاد کرنا شروع کیا کہ پکائی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو ثبوت جاتا ہے۔ اصل میں انہوں نے اس پر غور نہیں کیا تھا کہ زیر بحث کھانے کے وقت آیا رسول اکرم با وضو تھے یا نہیں۔ بہر حال ان کے اس فتوے پر ایک نوع دروست (غالباً ابن عباس) نے پوچھا کہ آیا گرم کئے ہوئے پانی سے وضو جائز ہے یا نہیں؟ (گرم پانی پکائی ہوئی چیز کی تعریف میں آجاتا ہے)

غرض بطور فقیہ حضرت ابو ہریرہؓ کا وہ درجہ نہیں جو خلفاء راشدین، عبد اللہ بن مسعود، بی بی عائشہ، ابن عمر، وغیرہ (رضی اللہ عنہم) کا ہے لیکن ان کی روایتوں میں سے ان کی ذاتی رائے کو ان کے مشاہدات و مسواعات سے جدا کر لیا جائے تو حدیث نبوی کی حد تک وہ ہمارے لئے ایک بڑے قیمتی مأخذ اور انمول معلومات کا ذریعہ ہیں۔

خود ابو ہریرہؓ اپنے حافظے کی خوبی کو رسول اکرم ﷺ کی دعا کی برکت قرار دیتے ہیں۔ ان کے حافظے کی شہرت دیکھ کر ایک مرتبہ مروان بن الحکم نے ان کا امتحان لیا۔ (وہ مدینے کا گورنر تھا)، چنانچہ اس نے ایک دن انہیں بلایا۔ اوہ راوہ حضرت کی باتوں کے

بعد حدیثیں پوچھنی شروع کیں۔ پر دے کے پیچھے ایک کاتب بیٹھا ہوا تھا، اور ابو ہریرہؓ کی لا علمی کی حالت میں ان کی ہر بیان کردہ حدیث کو لکھتا جا رہا تھا۔ کاتب کہتا ہے: ”مروان پوچھتا جاتا تھا اور میں لکھتا جاتا تھا۔ جو بہت سی حدیثیں ہو گئیں۔ پھر مروان سال بھر چپ رہنے کے بعد انہیں مکرر بلایا اور مجھے پر دے کے پیچھے بٹھایا۔ وہ پوچھتا گیا اور میں تحریر کو دیکھتا گیا۔ انہوں نے نہ ایک حرفاً زیادہ کیا انہوں نے ایک حرفاً کمؓ۔ اس سے نہ صرف حضرت ابو ہریرہؓ کے عمدہ حافظے کا پتہ چلتا ہے بلکہ اس کا بھی کہ ان کی بیان کردہ حدیثوں کی ایک تعداد مروان کے حکم سے لکھی بھی گئی اور ان کا ایک مرتبہ ”اصل“ سے مقابلہ بھی کر لیا گیا۔

مندابی ہریرہ کے نئے عہد صحابہ ہی میں لکھ گئے۔ چنانچہ ابو ہریرہؓ کی مندابی نسخہ عمر بن عبد العزیز کے والد عبد العزیز بن مروان گورنر مصر (المتومنی ۸۲ھ) کے پاس بھی تھا۔ انہوں نے کثیر بن مرہ کو لکھا کہ ”تمہارے پاس رسول اللہ ﷺ کے صحابیوں کی جو حدیثیں ہوں انہیں لکھ کر بیتحیج دولاً حدیثِ ابی هریرہؓ فائناً عینَ الدُّنْيَا (یعنی ابو ہریرہؓ کی حدیثوں کے بھیجے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ ہمارے پاس موجود ہیں)“^(۱)۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک اور تالیف ان کے شاگرد بشیر بن نہیک نے مرتب کی۔ دارمی^(۲) نے روایت کی ہے: ”بیشتر کہتے ہیں: میں ابو ہریرہؓ سے جو کچھ سنتا تھا لکھتا جاتا تھا۔ جب میں نے ان سے رخصت ہونا چاہا تو ان کے پاس ان کی کتاب لایا اور انہیں

(۱) کتاب الکنی، البخاری ص ۳۳ (بکوالہ مناظر احسن گیلانی)

(۲) طبقات ابن سعد ج ۷ ص ۵۷۔

(۳) بکوالہ مناظر احسن گیلانی۔

پڑھ کر سنائی اور ان سے کہا: یہ وہ چیز ہے جو میں نے آپ سے سنی ہے! انہوں نے کہا: ہاں۔

ابن وھب کہتے ہیں مجھے ابو ہریرہؓ نے ایک مرتبہ اپنی کتابیں دکھائیں^(۱) ان کی کتابوں کا ایک اہم واقعہ جو غالباً ان کی پیرانہ سالی کے زمانے کا ہے، قابل ذکر ہے۔ عمرو بن امیہ^(۲) انصاری اولین اسلامی سفیر اور عہد نبوی کے بہت ممتاز سفارتی افسر تھے، ان کے ایک فرزند کی جو ابو ہریرہؓ کے شاگرد تھے، روایت ہے:-

تَحَدَّى عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ بِحَدِيثٍ فَانْكَرَ، فَقَلَّتْ: إِنِّيْ قَدْ سَمِعْتُهُ مُنْكَرْ. فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدِيْ.
فَأَخْذَهُ يَدِيْدِيْ إِلَى بَيْتِهِ فَارَأَنَا كُتُبًا كَثِيرًا مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَوَجَدَ ذَلِكَ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: قَدْ أَخْبَرْتُكَ إِنْ كُنْتَ حَدِيثَكَ بِهِ فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدِيْ.

میں نے ابو ہریرہ کی ایک حدیث (انہیں سے) بیان کی انہوں نے ناواقفیت ظاہر کی۔ میں نے کہا میں نے اسے آپ ہی سے سنائے۔ کہا: اگر تم نے اسے مجھ سے سنائے تو وہ میرے پاس لکھی ہوئی ہوئی چاہئے۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے۔ اور ہم کو حدیث نبوی کی بہت سی کتابیں دکھائیں اور پھر وہ حدیث بھی پائی۔ پھر کہا: میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر میں نے وہ حدیث تم سے بیان کی ہے تو وہ میرے پاس لکھی ہوئی ہوئی چاہئے۔

(۱) فتح الباری لابن حجر/ ۱۸۳ (بکوالہ مناظر احسن گیلانی)

(۲) جامع بیان الحکم لابن عبد البر/ ۱۸۳

ایک گرال مایہ یاد گار ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث نبوی آس حضرت ﷺ کے دو تین سو سال بعد لکھی جانی شروع ہوئی۔ اور احمد بن حنبل، بخاری، مسلم، ترمذی، جیسے آئندہ کو بھی جعلساز قرار دینا چاہتے ہیں، ان کی دلیل زیادہ تر یہی رہی ہے کہ عبد نبوی یا عہد صحابہ کی حدیث کے متعلق کوئی یاد گار موجود نہیں ہے۔ اب عہد صحابہ کی یہ یاد گار ہمارے ہاتھ میں ہے اور مقابلہ کرنے پر نظر آتا ہے کہ بعد کے مؤلفوں نے مفہوم تو کیا، کوئی لفظ تک نہیں بدلا۔ صحیفہ ہمام کی ہر حدیث نہ صرف صحاح ستہ میں ابو ہریرہؓ کے حوالے سے ملتی ہے، بلکہ مماثل مفہوم دوسرے صحابہ سے بھی ان کتابوں میں ضرور ملتا اور اس بات کا ثبوت دیتا ہے۔ اس کا انتساب جناب جناب رسالت مآب ﷺ کی طرف فرضی اور بے بنیاد نہیں مثلاً زیر اشاعت رسالے کی حدیث نمبر (۵۶) حضرت انسؓ کے اور نمبر (۱۲۳) ابن عمرؓ کے حوالے سے بھی بخاری نے روایت کی ہے۔

ہمام بن منبہ:

ہمام بن منبہ کے حالات جو بھی ملتے ہیں وہ درج ذیل ہیں: طبقات ابن سعد میں لکھا ہے^(۱): ”وَهَبْ بْنُ مُنْبَهٍ كَيْ وَفَاتِ صَنْعَاءَ مِنْ ۝ مِنْ هَشَامَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ كَيْ خَلَافَتِ كَيْ آغَازَ مِنْ هَوَىٰ۔ رَبَّهُ ہمامُ بْنُ مُنْبَهٍ جَوَابَنَاءَ مِنْ سَيِّدَنَا، اور جواب پنے بھائی وہب بن منبہ سے عمر میں بڑے تھے، وہ ابو ہریرہؓ سے (تعییم کے سلسلے میں) ملے

(۱) طبقات ابن سعد جلد ۵ ص ۳۹۶ مطبوعہ لائیٹن، بالینٹن۔

(۲) ابنا ابن ایرانیوں کی اولاد کو کہتے ہیں جو یمن کو فتح کرنے کے بعد ہیں بس گئے تھے۔ یہ فوج کسری نو شیروان نے سیف بن ذی رین کی درخواست پر جہشیوں سے لازمی پیشی کی (اسد الغابہ جلد اول ص ۱۶۳)

حضرت ابو ہریرہؓ کے اور بھی شاگرد تھے، جن میں سے ایک زیر اشاعت رسالے کے ”مؤلف“ ہمام بن منبہ بھی ہیں۔ اور یہ تالیف بعینہ محفوظ ہونے سے تا حال دستیاب شدہ کتب حدیث میں قدیم ترین ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہؓ کی وفات ۵۵۸ھ یا اس کے لگ بھگ زمانے میں^(۲) بیان کی جاتی ہے۔ ابو ہریرہؓ بھی یمنی تھے اور ہمام بھی یمنی ہی کے باشدے تھے۔ جب ہمام تعییم کیلئے مدینہ آئے تو قطربی تقاضے سے وہ اپنے ممتاز ہم وطن ابو ہریرہؓ کی کے پاس حاضر ہوئے۔ ابو ہریرہؓ نے اس نوجوان ہم وطن کے لئے رسول اکرم ﷺ کی حدیثوں میں سے کوئی ڈیڑھ سو کا انتخاب کیا۔ یہ زیادہ تر تربیت اخلاق کے متعلق ہیں اور ان حدیثوں کو ایک چھوٹے سے رسالے کی صورت میں مرتب کر کے اپنے شاگرد ہمام کو املاع کرایا۔ اس کی تحریک تاریخ معلوم نہیں۔ لیکن یقیناً ابو ہریرہؓ کی وفات سے قبل کا واقعہ ہے جیسا کہ نظر آئے گا، یہ اصل میں حضرت ابو ہریرہؓ کی تالیف ہے جو انہوں نے ہمام بن منبہ کے لئے مرتب کی۔ اس لئے اس کا نام ”صحیفہ ابی ہریرہ لہمام بن منبہ“ ہونا چاہئے۔ بعض حوالوں سے، جیسا کہ آگے بیان ہو گا، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نام ”الصحیفة الصحیحة“ تھا۔ یہ قرین قیاس ہے کیونکہ ہم اور دیکھے چکے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ کو اگر کسی صحابی کی حدیث دالی پر رشک تھا تو وہ عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ ہے، جنہوں نے ”الصحیفة الصادقة“ کے نام سے حدیثوں کا ایک مجموعہ چھوڑا ہے۔ کوئی تعجب نہیں، اس کا دیکھا دیکھی انہوں نے اپنی تالیف حدیث کا نام صحیفہ صحیحہ رکھا ہو۔

بہر حال پہلی صدی ہجری کے تقریباً وسط کی یہ تالیف تاریخی نقطہ نظر سے

(۱) طبقات ابن سعد جلد چہارم حصہ دوم ص ۹۳ کے مطابق یہ ۵۵۹ھ میں اشتہر سال کی عمر میں

کہ ان کی وفات ^{۱۳}ھھ اکتیس (احدی و ثلثیں)^(۱) میں ہوئی۔ بخاری کا بیان ہے کہ علی[ؑ] نے بیان کیا! میں نے ایک شخص سے جو ہمام بن منبه سے ملا تھا پوچھا کہ ہمام کی وفات کب ہوئی؟ کہا سے دو میں^(۲) اور ابن عینیہ کے حوالے سے بیان کیا ہے، کہا کہ میں ہمام کی آمد کا دس برس تک انتظار کرتا رہا۔ میں (ابن حجر) کہتا ہوں کہ ابن سعد^(۳)، الخلیفہ اور ابن حبان نے بیان کیا ہے کہ ان کی وفات ^{۱۴}۲۲ اکتیس یا بیتیں میں ہوئی۔ العجلی نے بیان کیا ہے کہ یہ یمنی، تابعی اور ثقہ تھے۔

حاجی خلیفہ نے کشف الظنون^(۴) میں لکھا ہے کہ ”الصحيفة الصحيحة“ مؤلفہ، ہمام بن منبه التوفی ^{۱۳}ھھ یہ وہی ہے جسے انہوں نے برداشت ابی ہریرہ تالیف کیا۔ (کتبہ عن ابی ہریرہ)

صحیفہ ہمام کا تحفظ:

بہر حال ہمام بن منبه نے اپنے استاد سے حدیثوں کا جو مجموعہ حاصل کیا تھا، اسے نہ تو ضائع کیا اور نہ اپنی ذات کی حد تک مخصوص رکھا، بلکہ اپنی نوبت پر اسے اپنے

(۱) جیسا کہ ہم نے ابھی اوپر دیکھا، ابن سعد نے ”سے ایک سو ایک یادو“ (ستہ احدی و اثنتین و مائتہ) لکھا ہے۔ اور پرانے زمانے میں کسی کاتب کے سب کے باعث وہ ”اکتیس“ ہو گیا۔ اور کوئی وغیرہ بہر کسی نے وہی نقل کر دیا۔ البشیر بخاری کا ”سے دو“ کہنا ان کو اس سب سے بچا لیتا ہے۔ وغایہ^{۱۴} کہنا پڑتے ہیں جو ابن سعد کی بھی ایک روایت ہے۔

الجمع بین رجال الصحیحین ج ۲ ص ۵۵۴، قال علی بن المدینی عن اجل نقی هماما، انه مات سنه اثنتين و ثلاثين و مائة وقال ابن سعد توفی سنة احدی و ثلاثین و مائة رحمه الله۔

(۲) اور (۳) کیلئے ملاحظہ ہو سوس ۵۰ حاشیہ^(۱)

(۴) بر موقع (اس کتاب کے کئی مشرقی و مغربی ایڈیشن ہیں)

اور ان سے بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں۔ ان کی وفات وہب سے پہلے ہوئی یعنی ^{۱۴}۲۲ ایک سو ایک یادو ہجری میں۔ ان کی کثیت ابو عقبہ تھی۔

مزید تفصیل ابن حجر نے تہذیب التہذیب،^(۱) میں دی ہے جو یہ ہے: ”ہمام بن منبه بن کامل بن شیخ الیمانی ابو عقبہ الصناعی الا بناؤ نے ابو ہریرہ، معاویہ، ابن عباس، ابن عمر اور اثریہ سے روایتیں کی ہیں، اور خود ان سے ان کے بھائی وہب بن منبه، ان کے سبقتیج عقیل بن معقل بن منبه، علی بن الحسن بن آتش اور عمر بن راشد نے روایتیں کی ہیں۔ اسحاق بن منصور نے ابن معین کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ یہ (ہمام) ثقہ تھے۔ ابن حبان نے ان کا تذکرہ اپنی کتاب الثقات میں کیا ہے۔ المیوتی نے احمد سے روایت کی ہے کہ یہ (ہمام) غزوات (اسلامی جنگوں) میں حصہ لیا کرتے اور اپنے بھائی وہب کے لئے کتابیں خریدا کرتے تھے۔ انہوں نے ابو ہریرہ کے پاس زانوے شاگردی تھے کیا۔ اور ان سے حدیثیں سنیں جو تقریباً ایک سو چالیس ہیں، سب کی سب ایک استاد رکھتی ہیں۔ عمر نے ان کا زمانہ پایا جب کہ یہ بوڑھے ہو گئے اور ان کی بھوئیں (حاجب) ان کی آنکھوں پر گر گئی تھیں۔ ہمام نے ان (عمر) کو یہ (حدیثیں) پڑھ کر سنانی شروع کیں لیکن جب تھک گئے تو عمر نے (رسالہ) ہاتھ میں لے لیا اور باقی کو خود پڑھ کر سنایا۔ عبد الرزاق (راوی) یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ کونسا حصہ انہوں نے پڑھا اور کونسا ان کو پڑھ کر سنایا گیا۔ ابن سعد نے کہا

(۱) مطبوعہ حیدر آباد، جلد یازد ہم، صفحہ ۷۶، حلالات نمبر ۱۰۶، نیز جلد اول ص ۵۷۳۔

(۲) یہاں اس طرح شیخ ہے لیکن ان کے بھائی وہب بن منبه کے حالات (۱۱/۲۸۸ نمبر ۱۲۲) میں بغیر نقطوں کے شیخ بن ذی کتار الیمانی الصناعی الدیاری لکھا ہے۔ انباء کی آمد یہ میں چھٹی صدی عیسوی کے آخر میں آں حضرت علیہ السلام کے ولادت کے بعد ہوئی۔ لیکن یہاں باپ دادا، پڑا دادا، سگر دادا اس کے نام ایرانی کی جگہ عربی میں دیجئے ہیں۔ وہی تو ایرانی تھے یا نسبت مشتبہ ہے۔

شاگردوں تک پہنچایا اور رسالہ زیر تذکرہ کی روایت یا مدرس میں کامشغله انہوں نے پیرانہ سالی تک جاری رکھا۔ پھر درمیں، ہبتوں نے لیا ہوا یکن خوش قسمتی سے انہیں ایک صاحب ذوق شاگرد معمربن راشد یمنی بھی مل گئے۔ جنہوں نے بغیر حذف و اضافہ اس رسالے کو اپنے شاگردوں تک پہنچایا۔ معمربن راشد یمنی ایک ممتاز اہل علم بطور شاگرد مل گئے، یہ عبد الرزاق بن ہمام بن نافع الحمیری تھے۔ یہ بھی اسی ملک کے چشم و چراغ ہیں جس کے بارے میں حدیث نبوی وارد ہے کہ الائیمان یمان (ایمان یمن والوں میں ہے)

یہ عبد الرزاق بہت بڑے مؤلف گزرے ہیں۔ انہوں نے المصنف نامی ایک ضمیم کتاب تالیف دو جلدوں میں علم حدیث پر چھوڑی ہے۔ عبد نبوت و عبد صحابہ کی تاریخ سمجھنے میں اس کتاب سے بڑی مدد ملتی ہے۔ مصنف عبد الرزاق کے مخطوطے، استانبول اور یونان میں کامل، اور حیدر آباد و کن، ٹوک اور حیدر آباد سندھ وغیرہ میں ناقص ملتے ہیں۔ جامعہ عثمانیہ کے فاضل پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف الدین اسے آج کل ایڈٹ کر رہے ہیں اور ازٹلی چہ بہتر۔۔۔ جہاں تک زیر اشاعت صحیفے کا تعلق ہے۔ عبد الرزاق نے بخشہ روایت کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ علم کی خوش قسمتی ہے کہ انہیں دو بڑے ہی ایجھے شاگردوں ملے، ایک امام احمد بن حبل^(۱) اور دوسرے ابو الحسن بن یوسف الاسلامی، ان دونوں نے ہمارے صحیفے کی خاص خدمت کی۔ امام احمد بن حبل نے اسے اپنی ضمیم تالیف المسند کے "باب ابو ہریرہ"

کی ایک خاص فصل میں بلا حذف و اضافہ ضم کر دیا اور جب تک مند احمد بن حبل دنیا میں باقی ہے، صحیفہ ہمام کے بھی باقی رہنے کا سامان کر دیا۔ دوسرے شاگرد سلمی نے اس صحیفے کی مستقل روایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور ان کو اور ان کے شاگردوں کو نسلًا بعد نسل ایسے شاگردوں شید ملتے گئے۔ جنہوں نے اس قابل قدر یاد گار کو آلاش سے پاک اور حفاظت سے رکھا۔ چند نسلوں بعد عبد الوہاب ابن مندہ اصفہانی کا زمانہ آیا تو ان کے دو شاگردوں نے اس رسالے کی حفاظت کا اپنی اپنی جگہ سامان کیا۔ ایک تو ابو الفرج مسعود بن الحسن الشفیعی جن کے سلسلے میں محمد بن حبل اور اسماعیل بن جماعہ جیسے ممتاز مشاہیر کے نام ملتے ہیں اور کم از کم ۸۵۲ھ تک باقاعدہ درس اور روایت کی اجازت دینے کا سلسلہ جاری رہا۔ دوسرے ان عبد الوہاب ابن مندہ کے دوسرے شاگردوں محمد بن احمد اصفہانی ہیں، جن کے شاگرد ایک خراسانی عالم محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مسعود المسعودی البندھی (بندھی)^(۱) نے صلیبی چنگوں کے زمانے میں ۱۲۵۵ھ میں مدرسہ ناصریہ صلاحیہ میں (جو سلطان صلاح الدین نے دمیاط یعنی مصر میں قائم کیا تھا) اس کا درس دیا، اتفاق سے یہ اصل نسخہ محفوظ ہے اور ۱۲۵۵ھ یعنی تقریباً پوری ایک صدی تک اسی نسخے پر نسلًا بعد نسل علماء نے اپنے درس کا مدار رکھا اور اس میں اپنی درس وہی اور حاضر الوقت طلبہ کے نام وغیرہ درج کر کے دستخط کئے۔ اس سماع سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ بندھی جو المک الافضل بن سلطان صلاح الدین کے استاد تھے، ان کے درس میں دمیاط کا فوجی گورنر، تینیس اور

(۱) ان کے حالات کے لئے دیکھو ارشاد یا قوت ۷/۲۰۔ بغیر سیوٹی ص ۲۶۔ بر دلکمان کی جرمیں (تاریخ ادبیات عربی) ضمیمہ جلد اول ص ۲۰۳ یہی ضمیمہ، ضمیمہ، جلد اول ص ۲۳۷ و فیات ابن خلکان نمبر (۴۳۱)

(۱) امام احمد بن حبل بمقام بحداد ۱۲۷ھ میں پیدا ہوئے۔ امام شافعی سے درس حاصل کیا اور ۱۲۷ھ میں انتقال ہوا۔ امام بن حنبلی (۱۹۲ھ تا ۲۵۱ھ) اور امام سلم (۲۰۷ھ تا ۲۲۷ھ) جیسے جلیل القدر محدثین، امام احمد کے شاگردوں میں ہیں۔

د میاٹ کے متعدد اساتذہ و فضلاع بھی حاضر تھے۔ فیض علم کے ان جاری رکھنے والوں کا شجرہ یوں بتاہے:

رسول اکرم ﷺ (۵۳ ق) قبل هجرت تا ۱۰

ابو هریرہ (۵۸ ق)

ہمام بن منبه (۱۰۱ ق)

ابو عروہ معمر بن راشد (۱۵۳ ق)

ابوبکر عبدالرازق بن ہمام بن نافع (۱۲۱ ق تا ۲۱۱ ق)

امام احمد بن حنبل (۱۶۴ ق تا ۲۴۱ ق)

ابو بکر محمد بن الحسین القطان (۳۰۲ ق)

[ابراهیم بن محمد القطان]

محمد بن اسحاق ابن منده (۳۱۰ ق تا ۳۹۵ ق)

عبدالوهاب بن محمد ابن منده

طبعہ

مسعود بن الحسن النقفى

محمود بن ابراهیم ابن منده

محمد بن عبد الرحمن المسعودی، البنادی

مخاطبہ دمشق

محمد بن محمد بن هبة الله جھل

القاسم بن محمود بن مظفر بن عساکر

ابراهیم بن احمد بن عبد الواحد

عبدالله ابن جماعہ

اسماعیل ابن جماعہ

مخاطبہ برلن

جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا، حیفہ ہمام کی جہاں نسل بعد نسل مستقل اور علاحدہ روایت کا سلسلہ جاری رہا، وہیں بعض محدثوں نے اس کو اپنی تایفوں میں ضم یا مد غم بھی کر لیا۔ ان میں سے امام احمد بن حنبل نے چونکہ مؤلف یا راوی وارد حدیث مرتباً کیس، اس لئے ان کے لئے ممکن تھا کہ صحیفہ ہمام کو بخنسہ محفوظ رکھیں اور انہوں نے یہی کیا بھی ہے^(۱)۔ اس سے جہاں صحیفہ ہمام کے نوستیاب شدہ مخطوطے کی صحت کی توثیق ہوئی ہے، وہیں خود اس مخطوطے سے مند بن حنبل کے قابل اعتماد ہونے کا ثبوت ملتا ہے، اللہ نے اس طرح ان دونوں خادمان علم کو جزاً دیتے ہوئے آخرت کے ساتھ دنیا میں بھی سرخ رو کر دیا ہے۔ البتہ دوسرے محدث چونکہ موضوع وارد حدیث مرتباً کرتے رہے، مثلاً امام بخاری وغیرہ، انہوں نے مجبوراً صحیفہ ہمام کی حدیثوں کو اپنی کتابوں کے مختلف ابواب میں منتشر کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر سرسری تلاش میں صحیفہ ہمام کی مدرجہ ذیل حدیثیں صحیح بخاری کے ابواب مفصلہ کے تحت میں ملیں جو من و عن یکساں ہیں اور سب معمراً سے مردی ہیں:

حدیث نمبر ۱۰۸	بخاری	باب لا تقبل صلاة بغیر ظهور
حدیث نمبر ۹۲	بخاری	ما يقع من الغائيات
حدیث نمبر ۶۰	بخاری	من اس عربیانا
حدیث نمبر ۱۱۹	بخاری	دفن النخامة
حدیث نمبر ۷۰	بخاری	من اخذ بالرکاب
حدیث نمبر ۲۹	بخاری	الحرب بخدعة
حدیث نمبر ۱۳۳	بخاری	قول النبي احلت لكم الغائم

(۱) ریکھے مندا ابن حنبل طبع اول جلد دوم ص ۱۹۳۲۔

وہی ہیں۔

(۲) مندابن خبل میں ایک پانچ لفظی منقشر حدیث ہے جو ہمارے مخطوطوں میں نہیں ہے۔ (دیکھو حدیث نمبر ۱۷۳ کا حاشیہ) اس کے برخلاف مخطوطوں کی حدیث نمبر ۵ مندابن خبل میں حذف ہو گئی ہے۔ ہم نے مندابن خبل کے مطبوعہ نئے پر اعتاد کیا ہے۔ اس میں طباعت کی بہت سی غلطیاں رہ گئی ہیں، اس کا نیا ایڈیشن، جو متعدد نئے مخطوطوں سے مقابلہ کر کے شائع ہو رہا ہے، ابھی تک اس حصے تک نہیں پہنچا جہاں صحیفہ ہمام درج ہے۔

(۳) ہمارے مخطوطوں کی حدیثوں (۲۹، ۳۰) میں ”وسیع الحرب خدعة“ کا جملہ دہرایا گیا ہے۔ مندابن خبل میں یہ صرف حدیث نمبر (۳۰) میں ایک بار آیا ہے نمبر (۲۹) میں نہیں۔

(۴) بعض ذیلی چیزوں میں، جن سے اصل حدیث پر اثر نہیں پڑتا ونوں میں کہیں کہیں فرق ہے۔ مثلاً لفظ ”الله“ کے بعد کسی میں ”تعالیٰ“ ہے تو کسی میں ”عزوجل“ یا کسی میں ”نسی“ ہے تو کسی میں ”رسول الله“ یا ”ابو القاسم“ جو سب مترادف ہیں۔

(۵) چند ایسے خفیف فرق ہیں جو عام طور پر ایک ہی کتاب کے دو مخطوطوں میں ملتے ہیں چنانچہ مخطوطہ دمشق و مخطوطہ برلن میں باہم جو فرق ہے، مخطوطوں اور مندابن خبل کے ماہین بھی اسی طرح کا فرق ہے۔ جس سے مفہوم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ تمام فرق حاشیے میں درج کردی یہ گئے ہیں۔

اسناد:

ماخذ معلومات کا حوالہ بیان کرنا، اور کوئی پرانا واقعہ ہو تو اپنے استاذ کے نام ہی پر

حدیث نمبر ۸۵	بخاری	ماجاء في صفة الجنـة
حدیث نمبر ۵۸	بخاری	قول الله واذ قال ربكم للملائكة
حدیث نمبر ۲۳، ۲۲ (ہردو)	بخاری	باب علامات النبوة
حدیث نمبر ۵۷	بخاری	باب بالا نیز باب قول الله واذ وعدنا موسى
حدیث نمبر ۳۶	بخاری	باب قول الله وایوب اذ نادی
حدیث نمبر ۱۰۳	بخاری	حدیث الحضر مع موسی
حدیث نمبر ۱۱۵	بخاری	بدوالخلق، باب
حدیث نمبر ۵۹	بخاری	وفاة موسى
حدیث نمبر ۲۷	بخاری	قول الله وآتينا داؤد زبوراً
حدیث نمبر ۳۱	بخاری	قول الله واذ ذكر في الكتاب مريم
حدیث نمبر ۷۸	بخاری	حدیث الغار، باب
حدیث نمبر ۱۲۵	بخاری	باب علامات النبوة
حدیث نمبر ۱۲۳	بخاری	باب الاشـأـة

صحیح کا متن چوتھائی حصہ ہم نے نہیں دیکھا۔ اس میں بھی محمر کے حوالے سے مزید حدیثیں ملیں گی۔

ظاہر ہے کہ امام بخاری وغیرہ کی تالیفوں سے موجودہ مخطوطے کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جاسکتا، بجز اس کے کہ تخریج احادیث کی جائے البتہ منداحمد بن خبل سے مقابلہ کیا جاسکتا ہے۔ جہاں وہ بخنس نقل کر دیا گیا ہے اس مقابلے پر نظر آتا ہے کہ:

(۱) مندابن خبل اور ہمارے مخطوطات میں احادیث کی ترتیب یکساں ہے بجز احادیث نمبر ۱۳۳، ۹۳، ۱۳۸، ۱۲۶، ۹۳ کے جن میں تقدم و تأخر ہوا ہے، لیکن الفاظ بعضیہ

اکتفا کرنا، بلکہ استاد کے استاد اور ان کے استاذ کے مکمل ناموں کا سلسلہ چشم دید، یا گوش شنید و اقت کار تک پہنچنا یہ اسلامی مورخوں اور مؤلفوں کی اہم خصوصیات رہی ہیں۔ مسلمانوں میں اس کی ابتداء اور دیگر اقوام میں اس کے کم معروف ہونے پر ایک دلچسپ بحث پروفسر ڈاکٹر زبیر صدیقی نے کی ہے (دیکھو ان کا مقالہ "السیر الحشیت فی تاریخ تدوین الحديث" جو موتمر دائرۃ المعارف حیدر آباد میں پڑھا گیا اور روکندا موتمر میں ۱۳۵۸ھ میں شائع ہوا۔ وہاں یہ بحث ص ۵۵۵ تا ۶۳ میں آئی ہے)

زیر اشاعت رسالے کے مخطوطہ دمشق کی سند یہ ہے : محمد بن عبد الرحمن پنځدی، از محمد بن احمد اصفہانی، از عبد الوہاب بن محمد بن مندہ، ازو الدخود محمد بن اسحاق ابن مندہ، از محمد بن الحسین القطان، از احمد بن یوسف الاسمی، از عبد الرزاق بن ہمام بن نافع، از محمد، از ہمام بن منبہ، از ابو ہریرہ، از رسول اللہ ﷺ۔۔۔۔۔ یہ سب پونے چھ سوال کی سرگزشت ہے۔

لیکن انسان خطاؤ نیان سے مرکب ہوتا ہے، چنانچہ بہ ظاہر سہو کاتب سے ایک در میانی نام چھوٹ گیا ہے۔ کیونکہ ان گیارہ نسلوں سے چوتھی کڑی پر بیان ہوا ہے کہ محمد بن اسحاق ابن مندہ نے اسے محمد بن الحسین القطان سے سن، قصہ یہ ہے کہ ابن مندہ کی ولادت ۱۳۴ھ میں ہوئی جبکہ ان کے مبینہ استاد القطان کی وس سے آٹھ سال پہلے ۱۲۶ھ میں وفات ہو چکی تھی^(۱)۔ ظاہر ہے کہ استاد شاگرد کا تعلق نا ممکن ہے۔ ابن مندہ اور القطان کے درمیان کی ایک کڑی گم ہے۔

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک سہو کتابت ہے اور ایک پوری سطر چھوٹ گئی ہے اور اس سہو کے محسوس نہ ہونے کا باعث یہ ہے کہ اس سطر میں صرف ایک نام، یعنی

(۱) کتاب الانساب للسعانی تحت مادہ "قطان"

سلسلہ اسناد کی صرف ایک کڑی تھی اور اتفاق سے اس کا اور اس کے بعد کی سطر کا آغاز یکساں الفاظ سے ہو رہا ہے اس لئے نقل کننہ کا تب کی نظر چوک گئی۔

اس مفروضے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح عبد الوہاب ابن مندہ نے اپنے باپ سے تعلیم حاصل پائی اور اس رسالے کی روایت کی، اسی طرح محمد بن الحسین القطان سے بھی ان کے بیٹے نے تعلیم پائی اور حدیثوں کی روایت کی ہے جیسا کہ سمعانی نے (کتاب الانساب، تحت مادہ "قطان") صراحت سے بیان کیا ہے۔ اس طرح یہ کہا جاسکتا ہے کہ اسناد کی اصل عبارت یوں ہو گی کہ :

خبرنا والدی الامام ابو عبدالله محمد بن اسحاق، قال:
خبرنا (ابو اسحاق ابراهیم بن محمد بن الحسین القطان
قال: اخبرنا والدی الامام^(۱) ابوبکر محمد بن
الحسین..... الخ

ہمیں خبر دی میرے والد امام ابو عبدالله محمد بن اسحاق نے، کہا ہمیں خبر دی (ابو اسحاق ابراهیم بن محمد بن الحسین القطان) نے کہا: ہمیں خبر دی میرے والد امام^(۱) ابوبکر محمد بن الحسین..... نے، الخ۔
جیسا کہ نظر آئے گا، "محمد بن اسحاق" کے بعد ہی "ابو اسحاق" کا لفظ آیا اور پھر "خبرنا والدی الامام" کے الفاظ پے درپے دو سطروں میں دھرائے گئے ہے چارے کاتب کی نظر چوک گئی اور بعد میں کسی نے اسے محسوس نہ کیا تو اسے معدود رکھا جاسکتا ہے۔ یہ یوں بھی سلسلہ کی رسمی چیز کے ایک دو نہیں بارہ ناموں میں ایک کا اتفاقاً جھوٹ جانا ہے۔ اس سے کتاب کے اصل متن یعنی حدیثوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

(۱) بریکنلوں [] کے مابین کی عبارت ہماری رائے میں کاتب کی سہو سے چھوٹ گئی ہے۔

یہ کہو کب ہوا؟ اس سوال کا جواب بھی دینا ممکن نظر آتا ہے یہ سہونہ صرف دمشق کے مخطوطے میں ہے، بلکہ برلین کے مخطوطے میں بھی اور دونوں کے اشادات عبد الوہاب بن محمد ابن مندہ پر آکر ملتی اور پھر مشترک ہو جاتی ہیں، جیسا کہ اوپر شجرہ دے کرتایا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لئے جو نسخہ، تیار ہوا، اسی میں یہ کہو ہوا تھا۔

یہ امر کہ یہ مخفی کہو ہے اور یہ کہ اس سے اصل متن پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اس بات سے بھی ثابت ہے اس کے تقریباً دو سو سال پہلے اس کتاب کے پورے متن کو ایک اور مؤلف، امام ابن حنبل اپنی جگہ محفوظ کرچکے تھے اور آج ان دونوں مأخذوں (مندہ ابن حنبل اور مخطوط صحیفہ ابن ہمام) کا باہمی مقابلہ کرنے پر دونوں بالکل یکساں پائے جاتے ہیں۔ اور صاف نظر آتا ہے کہ سبو کتاب سے اصل کتاب پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ جہاں مندہ ابن حنبل سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے بعد کی صدیوں کے محدثوں نے صحیفہ ہمام کے دینات دارانہ تحفظ میں کوئی کوتاہی نہ کی تو ساتھ ہی صحیفہ ہمام کے نو دستیاب شدہ مخطوطوں سے خود اس کا بھی یقین ہو جاتا ہے کہ امام ابن حنبل نے پوری علمی دینات داری سے صحیفہ ہمام کے متعلق اپنی معلومات محفوظ کئے ہیں۔ انہیں کیا خبر تھی کہ ان کی وفات کے بعد سازھے گیارہ سو سال بعد ان کی علمی دینات داری کی جائج ہو گی۔ اگر انہوں نے صحیفہ ہمام کی حد تک جعل سازی نہیں کی تو اپنی مند کے باقی اجزاء میں بھی عمداً کوئی ایسی بد دیناتی نہیں کی ہو گی۔

ہمام بن منبہ کی وفات ۱۰۴ھ میں ہوئی۔ انہوں نے ابو ہریرہ سے احادیث کا یہ مجموعہ ۵۸ جو سے (جبکہ حضرت ابو ہریرہؓ کا انتقال ہوا) پہلے ہی حاصل کیا ہو گا۔ اس پر اب (۳۷۷ھ میں) سواترہ سو سال میں اسی مجموعے کی عبارت نہیں بدی، بلکہ بحنسہ

باقی رہی تو رسول اکرم ﷺ سے سننے اور ابو ہریرہؓ کے اس کو لکھ لینے کی مختصر مدت میں اس میں تبدیل و تحریف کا امکان نہ ہونا چاہئے، خاص کر اس لئے کہ یہی حدیثیں حضرت ابو ہریرہؓ کے علاوہ دوسرے صحابہ سے بھی مردی ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا سلسلہ اسناد مختلف رہا ہے۔ بعض حدیثوں کی تو کئی کئی صحابہ نے روایت کی ہے۔ اگر آج کی صحبت میں بے ضرورت تطویل اور تکھادیتے والے اطناب کا خوف نہ ہوتا تو اس رسائلے کی ہر ہر حدیث کے متعلق تلاش کر کے یہ بتلایا جاتا کہ کس کس حدیث کو ابو ہریرہؓ کے سوا مزید کس کس صحابی نے روایت کیا ہے اور وہ کن کن وسائل سے محفوظ ہوتی ہوئی ہم تک آئی ہے۔ اور کس طرح وہ باہم ایک دوسرے کی توثیق کرتی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ کی جانب کسی خفیف سے خفیف جعل سازی یا علمی بد دیانتی کا گمان تک نہیں رہتا۔ یہ حدیثیں بخاری، مسلم اور صحاح ستہ کے دیگر مؤلفوں نے تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں اپنے دل سے نہیں گھریں بلکہ عصر اول سے بحفاظت چلی آنے والی چیزوں ہی کو اپنی تالیفوں میں داخل کیا۔

یہ صورت حال کتاب حدیث پر ہمارا اعتقاد مشکلم کئے بغیر نہیں رہ سکتی۔

مخطوطوں کی کیفیت:

اوپر بیان ہوا ہے کہ صحیفہ ہمام بن منبہ کے ہمیں اب تک صرف دو مخطوطوں کا پتہ ہے۔ اور ان دونوں کا حرف بہ حرفاً مقابلہ کر کے یہ ایڈیشن تیار کیا گیا ہے۔ ان کی مختصر کیفیت بے محل نہ ہو گی۔

مخطوطہ برلین کا نمبر وہاں کی فہرست مخطوطات عربی میں (1797، 1384، WE) سے ہے۔ یہ ذخیرہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے تک برلین کے سرکاری کتب خانے میں

بروکلمان اس صحیفہ کو ہمام بن منبہ کے نام کے تحت نہیں بیان کرتا۔ جب ہم نے تلاش کو طول دیا تو اس کا پتہ مغضن اتفاقاً چلا۔ وہ اس صحیفے کو ”عبد الوہاب بن محمد بن اسحاق بن مندہ المُتَوْفِي ۳۷۴ھ مطابق ۱۰۸۲ء“ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ پھر کہتا ہے: ”آپ کی تالیفوں میں صحیفہ ہمام بن مندہ (نام یوں ہی ہے) (التوفی ۱۵۱ھ (سن اسی طرح ہے) جو ابوہریرہ متوفی ۶۷۸/۵۸ سے مروی ہے“ یہ غلطی طبع اول ہی میں نہیں بلکہ ضمیمہ کتاب اور جلد اول کے ضمیمے کے ضمیمے میں بھی ہے۔ اس نے ”ہمام بن مندہ“ لکھا ہے حالانکہ مراد ”ہمام بن منبہ“ کے سوائے اور کچھ نہیں۔ اسی طرح اس سے ان کی تاریخ وفات میں بھی سہو ہوا ہے (صحیح تاریخ اس اسے نہ کرایہ) اسی طرح اس نے عبد الوہاب ابن مندہ کی طرف منسوب کرنے میں فاش غلطی کی ہے۔ وہ تو کسی ایک زمانہ میں صرف روایت تھے۔

مخطوطہ و مشق:

دمشق کا مخطوطہ اپنے ہمیشہ مخطوطے پر ایسی ہی فوقيت رکھتا ہے جیسے کہ سورج کا نور چاند کی مستعار روشی پر، اور وہ وہاں کتب خانہ ظاہریہ میں محفوظ ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد زیر صدیقی (کلکتہ یونیورسٹی) نے مجھے اس کا پتہ دیا اور دمشق کے ڈاکٹر صلاح الدین منجد کی مہربانی سے مجھے اس کتاب کے فتو فرما ہم ہوئے۔ یہ دونوں میرے اور ان تمام لوگوں کے شکریہ کے مستحق ہیں جو اس کتاب کے پڑھنے سے مستفید ہوں گے۔

دمشق کا یہ مخطوطہ بھی کئی رسالوں کے مجموعے کے ضمن میں ہے لیکن یہ اتمیاز رکھتا ہے کہ مکمل ہے اور کتابت کی تاریخ کے لحاظ سے بھی برلین کے مخطوطے سے بھی زیادہ قدیم ہے چنانچہ چھٹی صدی ہجری کا لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح یہی وہ اصل

تھا۔ دوران جنگ میں حفاظت کیلئے یہ شہر ٹیوہنگن بھیجا گیا اور آج تک (۱۹۵۷ء) تک اس کا وجود ہے۔ وہاں صحیفہ ہمام ایک مجموعہ رسائل میں ہے۔ جن میں وہ ورق نمبر (۵۲) سے شروع ہو کر نمبر (۶۱) تک یعنی آخر ورقوں میں ہے۔ پیچ میں دو جگہ ایک ایک ورق گم ہو گیا ہے۔ اس کا جرجر (۱۴۷۵×۱۲۵۵) سینٹی میٹر ہے۔ اور ہر صفحے میں (۱۹) سطریں آئی ہیں۔ اور اس میں ہر حدیث ”وقال“ (اور انہوں نے کہا) کے الفاظ سرخ روشنائی سے لکھے گئے ہیں اپنے سفر بر لین کے وقت میں نے اپنے ہاتھ سے اس کی نقل کے آخر میں، میں نے یہ عبارت درج کی تھی: ”نَقَلَهُ لَفْظًا مِّنَ الْأَصْلِ الْمَحْفُوظِ فِي خَزَانَةِ الْحُكُومَةِ الْبَرْوَسَاوِيَّةِ فِي بَرْلِينٍ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمًا قَبْلَهُ ۱۳۵۱ مِنَ الْهِجْرَةِ وَقَابِلَهُ مِنَ الْأَصْلِ الْمَنْقُولِ عَنْهُ بِحَسْبِ الْأَسْتَطْعَاةِ، محمد حمید اللہ“

(محمد حمید اللہ نے اصل نسخے سے جو حکومت پروشیا کے کتب خانہ واقع بر لین میں محفوظ ہے ۱۳۵۱ء میں اس کو لفظاً بلفظ بروز عرفہ اور اس سے ایک دن پہلے نقل کیا، اور جس اصل سے یہ نقل حاصل کی گئی اس سے حسب استطاعت مقابلہ کیا) یہ نسخہ بارہویں صدی ہجری کے ابتدائی زمانے کا ہے۔ جب ہم نے بروکلمان^(۱) کی طرف رجوع کیا تو افسوس ہوا کہ اس نے فاش غلطیاں کی ہیں۔

(۱) اس نے جرمن زبان میں ساری دنیا کی عربی کتابوں کی ایک فہرست چھپائی ہے اور ہر کتاب کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اس کا مؤلف کون تھا (مع مختصر ساخت عربی)، کتاب کے کتنے مخطوطے دنیا کے کس کتب خانے میں (حوالہ نمبر فہرست) پائے جاتے ہیں، ساتھ ہی اگر وہ چھپ بھی گئی ہے تو اس کب اور کہاں چھپی ہے۔ یہ سات جلدیوں میں تقریباً پانچ ہزار باریک ہاپ کے صفحوں میں جرمن زبان میں چھپی ہے۔ ان کا نام ”تاریخ ادبیات عربی“۔

Geschichte Der Arabischen Litteratur
چونکہ اس کتاب میں حروف ٹھنڈی پر اشاریہ بھی ہے اس لئے یہاں صفحوں کا حوالہ نہیں دیا گیا ہے۔

نسخہ بھی ہے جو درس اور ساعت میں استعمال ہوتا رہا اور متعدد مرتبہ اس پر اجازت ثبت ہوئی ہے۔ ابن عساکر مصنف ”تاریخ دمشق“ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے اسی مخطوطے پر درس دیا ہے، وہ خوش خط ہے البتہ لکھنے والے اکثر جگہ حرفاں پر نقطے نہیں دیتے ہیں۔ ہر صفحہ میں ۲۱ یا ۲۳ سطریں ہیں۔ میرے پیش نظر فوٹو کا جم جرمنی کی کتاب کے جم کے برابر ہی ہے۔ یہ نسخہ صلیبی جنگلوں کے زمانہ میں دمیاط (مصر) کے ایک نسخہ سے نقل کیا گیا ہے۔ ان لڑائیوں اور فتوں کے زمانہ میں محدثین کے پاس اسلامی درس کے جو عادات اور آداب تھے، ہم ان کو اس کی ساعتوں میں دیکھتے ہیں یہاں ان کی تفصیل کی حاجت نہیں۔

دونوں مخطوطوں میں کاتب نے روایت کے بعض اختلافات کو حاشیہ پر یوں لکھا ہے۔ ”اوْجَرُ“ یا ”ادْجَرُ“، اس طرح ”تِرْكِتُمْ“ ”تُرِكَتُمْ“، ”يُحِيِّنَكَ“، ”يُحِيِّنَوكَ“، ”فَزَادَا“ ”فَزَأَوَهُ“ ”بَطَعَامِكُمْ“ ”بَطَعَامِيهِ“ ”حِينَ“ ”حِينَهُ“ ان اختلافات سے حدیث کا مفہوم بالکل نہیں بدلتا۔ مندا بن حبل میں بھی ہم ایسے چند اختلافات حاشیہ پر درج دیکھتے ہیں ممکن ہے کہ مند کے نئے اور بہتر ایڈیشن میں یہ سارے اختلافات بھی مل جائیں کہ پہلا ایڈیشن کسی قدر ناقص چھپا ہے۔ شاید یہ اختلافات عمر کے زمانے سے چلے آرہے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمام سے صحیفہ پورے کا پورا نہیں سناتا تھا، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ابن حجر سے نقل کیا ہے کہ شروع میں ہمام ہی سناتے رہے۔ جب وہ اپنی شدید پیرانہ سالی کی وجہ سے تھک گئے تو ان کے شاگرد معمرا نے اپنے نقل کردہ نسخے سے باقی عبارت پڑھ کر سنائی اور تھک ہوئے استاد توجہ نہ کر سکے۔ پرانے عربی خط کی خامیوں کو قرأت ساعت کے ذریعہ سے کنٹرول کیا جاتا تھا جو یہاں پوری طرح نہ ہو سکا۔

حدیث نبوی اصل میں دوستوں پر قائم ہے: کتابت اور قرأت ساعت اور وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں۔ اگر کوئی شخص حدیث نبوی کے تحفظ اور صحت میں جو حزم احتیاط برتبی جاتی رہی ہے اس کا مقابلہ اسلام سے پہلے دوسرے پیغمبروں کی حدیثوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس سے، اور اسی طرح ہمارے اس موجودہ زمانے کی ”تاریخ“ سے کرتا ہے جو اخبارات و جرائد کے عمداء جھوٹ اور سرکاری دستاویزوں کے مکارانہ بیانات اور مدریسات پر مبنی ہوتی ہے اور فکر سلیم سے کام لے تو اس پر حدیث کی فضیلت و فوقيت واضح ہو جائے گی اور یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ محمد شین کے کارنامے، عبد صحابہ سے لے کر آج تک، جو زمانے کی دستبرداری محفوظ رہ سکے ہیں کتنی۔ فوقيت رکھتے ہیں! مسلمانوں کی حدیث اور غیروں کی حدیث میں وہی فرق ہے جو زمین و آسمان میں، اور ان دونوں کے فرق کا کیا ٹھکانہ ہے۔ حدیث اسلامی کی خوبیوں پر نہ دشمن کامعاذانہ طعن و ظفر پر دہوال سکتا ہے اور وہ دوستوں کی ناواقفیت، آئندہ اور اراق میں صحیفہ ہمام پیش ہے، سہولت کی خاطر ان حدیثوں پر ہم نے نمبر سلسہ بڑھا دیا ہے۔

(أقدم تأليف في الحديث النبوى)

صَحِيفَةُ هَامِّ بْنِ مَنْبَهٍ

المولود سنة ١٥ (؟) والمتوفى سنة ١٠١ أو ١٠٢ للهجرة تلميذ سيدنا أبي
هريرة رضي الله عنه (المتوفى سنة ٥٨ من الهجرة)

مخطوطہ مشہد کتاب خانہ ظاہریہ کے آخری صفحہ کا فوٹو
اس صفحہ کی ابتداء میں حدیث نمبر ۱۳۳ کا باقیہ حصہ درج ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَوْنُكَ اللَّهُمَّ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو براہم بریان اور نہایت رحم والابے)

يَا اللَّهُ تَبَرِّي مَدْ

الحمد لله رب العالمين، والصلوة على رسوله محمد وآلہ اجمعین۔

(سب تعریف اللہ کے لئے سزاوار ہے جو تمام عالموں کا پروگار ہے اور اس کے رسول محمد ﷺ

اور اس کی تمام آل پر رحمت ہو)

[حدَّثَنَا الشَّيْخُ الْأَجْلُ الْأَوَّلُ حَافِظُ تاجِ الدِّينِ بَهَاءُ الْإِسْلَامِ
بَدِيعُ الزَّمَانِ] ^(۱) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ
مَسْعُودٍ الْمَسْعُودِيُّ البَنْدِهِيُّ ^(۲) وَقَفَةُ اللَّهِ وَبَصَرَةُ بَعْيُوبِ نَفْسِهِ بِقِرَائِيَّهِ
عَلَيْنَا مِنْ أَصْلِ سِمَاعِهِ الْمَنْقُولُ مِنْهُ فِي الْمَدْرَسَةِ النَّاصِيرِيَّةِ الصَّلَاحِيَّةِ خَلَدَ
اللَّهُ مُلْكُ وَأَقِيقُهَا فِي السَّادِسِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ ذِي القَعْدَةِ سَنَةَ سِعْ وَسَعْيَنَ
وَخَمْسِيَّائِهِ قَالَ:

أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْفَقِهُ الصَّالِحُ أَبُو الْخَيْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ
عُمَرَ الْمُقْدَرِ الْإِصْبَهَانِيُّ قَرَانَةً عَلَيْهِ وَآنَا أَسْمَعُ قَالَ:

(۱) لعل هذا من زيادة بعض المتأخرین فانه لا يطابق ما يلى أى "بصره بعيوب نفسه"

(۲) البندهی، غير معجم في الأصل والتنبیہ الى پنج ده، قریۃ بخارسان۔

اَخْبَرَنَا^(۱) الشَّيْخُ أَبُو عَمْرُو عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ
إِنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ مَنْدَهُ الْإِصْبَهَانِيَّ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا وَاللَّذِي إِلَامَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا [...] أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدٌ بْنُ الْحُسَينِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ
الْقَطَانِ، قَالَ:

حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلْمَى، قَالَ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ بْنُ هَمَّامٍ بْنِ نَافِعِ الْحِمِيرِيِّ:

عَنْ مَعْمَرٍ:

عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مَنْبَهٍ، قَالَ:

هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ،

عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

(شیخ امام اجل اوحد حافظ تاج الدین بهاء الاسلام بدیع الزمال)^(۲) ابو عبد الله
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مسعود مسعودی البندھی^(۳) نے اللدان کو توفیق دے
اور ان کو ان کے نفس کے عیب دکھائے ہم سے بیان کیا:

انہوں نے مدرسہ ناصیریہ کے (الله اس کے وقف کرنے والے)^(۴) کے ملک کو

(۱) من هنا يبدأ سند النسخة البر لينية بعد البسمة.

(۲) غالباً يَعْبَرُ مَتَّخِرِينَ نَفْسَهُمْ بِهِ بِرَحْمَانِيَّ بِهِ كَيْفَ كَيْفَ بَعْدَ مِنْ آتَنَاهُمْ وَالْعَبَرَتُ "اللَّهُ... إِنَّكَ لَكَ" اَنَّ كَوْنَكَ لَكَ لَيْسَ كَعِيبٍ دَكَّاهَيْنَ، اَنَّ كَوْنَكَ لَكَ لَيْسَ كَعِيبٍ دَكَّاهَيْنَ بِهِ بِرَحْمَانِيَّ بِهِ.

(۳) بندھی اصل نئے میں بے نقطہ ہے اور یہ اسم نسبت "شادہ" سے ماخوذ ہے، پشادہ، خراسان
میں ایک گاؤں تھا۔

(۴) یعنی سلطان صلاح الدین (ولادت ۵۳۲ھ، ایام وفات ۵۸۹ھ، ۱۱۹۳ء) یہ مدرسہ
دمیاط یعنی مصر میں تھا جیسا کہ آئندہ اجازت میں وضاحت ہے۔

ہمیشہ قائم رکھے) اصل نسخہ کو جس طرح سن اور جس اصل ہی سے یہ نسخہ نقل کیا گیا
ہے، ہم کو بتارن ۶۷۰ھ قعده کے پڑھ کر سنایا انہوں نے کہا:

شَيْخُ ثَقَةِ صَالِحٍ شَيْخُ أَبْوَ الْجَيْرِ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنُ عُمَرِ الْمُقْدَرِ اصْفَهَانِيُّ نَفَرَ إِلَيْهِ
اس طرح کہ جب ان پر پڑھ کر سنایا جا رہا تھا اور میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا:
ہم کو خبر دی^(۱) شَيْخُ أَبْوَ الْعَمْرِ وَعَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ اَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ اَسْحَاقِ بْنِ مُحَمَّدٍ

یَحْيَى بْنِ مَنْدَهُ اصْفَهَانِيُّ نَفَرَ إِلَيْهِ

میرے والد امام ابو عبد اللہ محمد بن اسحاق نے ہم کو خبر دی، انہوں نے کہا:

ہم کو خبر دی تو ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن الحسین القطان نے، انہوں نے کہا:
ہم کو میرے والد امام^(۲) ابو بکر محمد بن حسین بن حسن بن خلیل القطان نے خبر دی،
انہوں نے کہا:

ابو الحسن احمد بن یوسف سلکی نے ہم سے بیان کیا، انہوں نے کہا:

عبد الرزاق بن ہمام بن نافع حمیری نے ہم سے بیان کیا:

وَ مَعْرِرَسَ (روایت کرتے ہیں):

وَهَ ہَمَّامُ بْنُ مَنْبَهٍ سَعَى، انہوں نے کہا:

یہ وہ (حدیثیں) ہیں جن کو ابو ہریرہ نے ہم سے بیان کیا:

وَهُوَ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعَى رَوَى عَنْهُ كَمْ مِنْ

(۱) برلن (جرمنی) کا نئے نام اللہ کے بعد اسی سند سے شروع ہوتا ہے۔

(۲) وجود مندرجہ مقدمہ کے تحت اتنی عبارت بڑھائی چلتی ہے، بہ ظاہر سہو کتابت ہے اصل
میں یہ سطر چھوٹ گئی ہے۔

وَضَعَتْ هُنَّا لِبَنَةَ فَتَمَ بَنَاؤُهُ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الْكَلَمُ: فَإِنَّ الْلِبَنَةَ.

(۲) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری مثال اور مجھ سے پہلے پیغمبروں کی مثال اس شخص کے مانند ہے جو حجرے تعمیر کرے ان کو عمدہ اور خوبصورت اور کامل بنائے گر مکان کے کسی ایک کونے کی ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ جائے۔ لوگ پھر پھر کر مکان دیکھتے ہیں اور عمارت کو پسند کرتے ہیں۔ پس وہ کہتے ہیں کیوں نہیں یہاں ایک اینٹ رکھ دی جاتی جس سے عمارت کمل ہو جائے۔ پھر محمد ﷺ نے فرمایا: وہ اینٹ میں ہی ہوں۔

-۳- وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْكَلَمُ: مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ (۲/۱) كَمِثْلِ رَجُلٍ عَلَيْهِمَا جُبَّانٌ -أَوْ جُنَّانٌ- مِنْ حَدِيدٍ إِلَى ثَدِيهِمَا أَوْ إِلَى تَرَاقِيهِمَا فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقَ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ ذَهَبَتْ عَلَى جَلْدِهِ حَتَّى تَجُنَّ بِنَائِهِ وَتَغْفُلُ أَنْرَهُ وَجَعَلَ الْبَخِيلَ كُلَّمَا أَنْفَقَ شَيْئًا أَوْ حَدَثَ بِهِ نَفْسَهُ غَضَّتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانِهَا فَيُوَسْعُهَا وَلَا تَتَسْعَ.

(۳) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال (۱/۲) دو آدمیوں کے مانند ہے جن پر دلوہ کے نہیں۔ یادو زرہ بکتر۔ جو ان کے سینوں یا ہنکلی کی ہڈیوں تک ہوں۔ جیسے جیسے صدقہ دینے والا شخص کوئی

(۲) مسلم ج ۲ کتاب الفحاس مکمل ص ۲۲۸ (باب ذکر کونہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین) حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمر عن همام بن منبہ قال: هذا ما حدثنا ابو هریرۃ عن رسول اللہ ﷺ فذکر احادیث منها: وقال ابو القاسم ﷺ مثلی ومثل الانبياء من قبلی.....

۳۔ بها مش الدمشقیۃ: سقط من اصل السمعاء کلمة "بنانہ" "غضبت" فی فتح الباری عن

ہمام "غاصبت"۔

۱- نَحْنُ الْآخَرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأَوْتَيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْهِمْ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَذَا إِنَّا اللَّهُ لَهُ، فَهُمْ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، فَالْيَهُودُ غَدَّاً، وَالْأَصَارَى بَعْدَ غَدِّهِ.

(۱) ہم (دنیا میں) آخری لوگ ہیں (یکن) قیمت کے دن (سب امتوں سے) آگے ہوں گے، اگرچہ ان کو (اللہ کی) کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہم کو ان کے بعد، پس یہ ان کا وہ دن ہے جس کو (اللہ نے) ان پر فرض کیا۔ پھر انہوں نے اس میں اختلاف کیا یکن اللہ نے اس بارے میں ہمیں بدایت دی۔ پس وہ اس بارے میں ہمارے پیرو ہیں، یہودی کل اور نصاری پر سوں (یعنی عبادت کا دن مسلمانوں کے لئے جمع ہے، اس کے بعد یہودیوں کے لئے ہفت اور اس کے بعد عیسائیوں کے لئے التوار)

-۲- وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْكَلَمُ: مِثْلِي وَمِثْلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمِثْلِ رَجُلٍ ابْنَتِي بِيُوتًا فَاحْسَنَهَا وَاجْمَلَهَا وَأَكْمَلَهَا إِلَّا مَوْضِعُ لِبَنَةَ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَّاِيَاهَا، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطْلُوْفُونَ، وَيَعْجِبُهُمُ الْبَنِيَانُ، فَيَقُولُونَ: أَلَا

۱۔ بزاد ہئنا کما ذکرنا فی المقدمة: [ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن الحسینقطان، قال: اخبرنا والدى الامام]

(۱) مسلم ج (۱) ص ۲۸۲ کتاب الجموع (مطبوعہ بندر احی المطان دبلیو ۱۳۲۹ھ)، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبہ، اخھی وھب بن منبہ قال: هذا ما حدثنا ابو هریرۃ عن محمد رسول اللہ ﷺ (پوری حدیث من و عن) بخاری ج ۲۷ کتاب الایمان، حدثی اسحاق بن ابراہیم، اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن همام بن منبہ قال: هذا ما حدثنا ابو هریرۃ عن النبي ﷺ قال: نحنُ الْآخَرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ لَهُ لَان بلع احد کم بیمه (دیکھیے صحیفہ ہمام کی حدیث نمبر ۹۵)

۲۔ "بیوتاً" فی مسلم بنی "داراً" رقم۔

چیز صدقہ دیتا ہے تو وہ اس کے جسم سے دور ہوتا جاتا ہے اور اس کی انگلیوں کو چھپا دیتا ہے اور اثر مٹ جاتا ہے۔ اور بخیل جب کبھی کوئی چیز خرچ کرتا ہے یا اپنے دل میں اس کا خیال کرتا ہے تو زرہ کاہر ایک حلقة اپنی جگہ کائی لگتا ہے، وہ اس کو کشادہ کرنا چاہتا ہے مگر وہ کشادہ نہیں ہوتا۔

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِثْلُ كَمِيلٍ رَجُلٌ إسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَانَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشَ وَهَذِهِ الدَّوَابُ التَّيْ يَقْعُنُ فِي النَّارِ يَقْعُنَ فِيهَا وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ وَيَغْلِيُهُنَّ فَيَتَحَمَّنُ فِيهَا فَذَكَرَ مَثْلِي وَمَثْلُكُمْ أَنَا آخُذُ بِحَجْزِكُمْ عَنِ النَّارِ هَلْمٌ عَنِ النَّارِ فَتَغْلِبُونِي تَقْحَمُونِ فِيهَا۔

✓ (۲) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری مثل اس شخص کے ماندہ ہے جس نے آگ سلاکی ہو جب اطراف کی چیزیں روشن ہو جاتی ہیں تو پردازے اور زمین پر رینگنے والے وہ (کیڑے مکوڑے) جو آگ میں گرا کرتے ہیں۔ اس میں گرنے لگتے ہیں اور وہ شخص ان کو (اس میں گرنے سے) روکنے لگتا ہے لیکن وہ اس پر غالب ہو جاتے ہیں اور اس میں گھس جاتے ہیں۔ اسی میں میری اور تمہاری مثل ہے، میں تم کو آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں (اور چلاتا ہوں) کہ آگ سے ہٹو، آگ سے ہٹو (مگر تم سنتے ہی نہیں) لیکن تم مجھ پر غالب آجائے ہو اور آگ میں گھس جاتے ہو۔

(۳) مسلم ج ۲ کتاب الفضائل ص ۲۴۸۔ حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا ابو هريرة عن رسول الله ﷺ فذكر أحاديث منها وقال رسول الله ﷺ

۵۔ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِثْلُهُ: فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسْبِرُ الرَّأْكَبُ فِي ظَلَلِهَا مِائَةً عَامٌ لَا يَقْطُعُهَا۔

(۵) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت میں ایک (اتنابڑا) درخت ہے کہ اگر سوار اس کے سایہ میں سورس تک چلتا ہے تو بھی اس کو ختم نہ کرے گا۔

۶۔ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِثْلُهُ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنُّ إِيَّاكُمْ وَالظَّنُّ إِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَنَاجِشُوا وَلَا تَحَاسِدُوا وَلَا تَنَافِسُوا وَلَا تَبَاغِضُوا وَلَا تَدَابِرُوا وَكُوْنُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔

✓ (۶) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم (بد) گمانی سے بچو، تم بد گمانی سے بچو کیونکہ (بد) گمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، اور تم آپس میں خرید و فروخت میں دھوکا بازی نہ کرو اور آپس میں حسد نہ کرو اور نہ نفسانیت سے آپس میں مقابلہ کرو اور نہ آپس میں بغضہ رکھو، اور نہ قطع تعلق کرو، اور اے اللہ چڑی بندو! تم آپس میں بھائی، بھائی بن جاؤ۔

۷۔ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِثْلُهُ: فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلَّى يَسْأَلُ رَبَّهِ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ۔

(۷) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جمعہ میں ایک گھری ایسی ہوتی ہے کہ اس گھری کوئی مسلمان نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ ضرور

۸۔ لا يذكر هذا الحديث في رواية ابن حنبل،

(۲) بخاری ج ۲۵ کتاب الادب، حدثنا بشر بن محمد الحبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابی هریرۃ عن النبی ﷺ قال:.....

(۷) مسلم ج ۱ ص ۲۵۱ کتاب الجمعة، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال: اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابی هریرۃ عن النبی ﷺ قال:.....

اس پر حرم کر۔ جب تک کہ اس شخص کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔

۱۰۔ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِنْ وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ فَوَاقَعٌ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔

(۱۰) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص "آمین" (تقول کر) کہے اور فرشتے بھی آسمان پر "آمین" کہیں ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا ساتھ دینا موافق ہو تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔

۱۱۔ وَقَالَ أُبُو هُرَيْرَةَ: يَبْتَمَّا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدْنَةً مُقْلَدَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِرْكَبْهَا فَقَالَ: إِنَّهَا بَدْنَةٌ يَا رَسُولُ اللَّهِ! فَقَالَ: وَيْلَكَ إِرْكَبْهَا وَيْلَكَ إِرْكَبْهَا۔

(۱۱) اور ابو ہریرہ نے کہا: ایک مرتبہ ایک شخص قربانی کے جانور کو اس کے گلے میں پڑھے ڈالے پیدل ہائکے چلا جا رہا تھا تو رسول اللہ ﷺ نے اس سے فرمایا: اس پر سورا ہو جا۔ اس نے کہا: یا رسول اللہ! یہ تو قربانی کا جانور ہے، آپ نے فرمایا: تجھ پر افسوس ہے اس پر سورا ہو جا، تجھ پر افسوس ہے اس پر سورا ہو جا۔

۱۲۔ (۲۲) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: نَارُكُمْ هَذِهِ مَا يُوْقَدُ بِنُو آدَمَ جُزْءًا مِّنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِّنْ حَرَّ جَهَنَّمَ فَقَالُوا: وَاللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيتَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةِ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ

(۱۰) مسلم ج ۱ ص ۱۷۶ کتاب الصلوٰۃ حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال

حدثنا معاشر عن ہمام بن منبہ عن ابی هریرہ عن النبی ﷺ بعثتہ بعثتہ.

(۱۱) مسلم ج ۱ ص ۴۲۵ کتاب الحج، حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا

معمر عن ہمام بن منبہ قال هذا ما حدثنا ابی هریرہ عن النبی ﷺ فذکر احادیث منها وقال.....

۱۲۔ فی المخطوطین: "بُنَا آدَمَ"۔

اس چیز کو عطا کرتا ہے۔

۸۔ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: الْمَلَائِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ فِيکُمْ: مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ يَأْتُوْ فِيکُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكُمْ عِيَادِيَ قَالُوا تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصْلَوْنَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصْلَوْنَ۔

(۸) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے نوبت بہ نوبت تمہارے پاس آیا کرتے ہیں، اور صبح کی نماز اور عصر کی نماز میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جنہوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری (پروردگار) کے پاس اور جاتے ہیں اور وہ ان سے پوچھتا ہے۔۔۔ حالانکہ وہ ان سے زیادہ جانے والا ہے۔۔۔ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں: ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم اس حال میں ان کے پاس گئے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔

۹۔ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: الْمَلَائِكَةُ تُصَلَّى عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ وَتَقَوْلُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ۔

(۹) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فرشتے تم میں سے ہر شخص پر اس وقت تک رحمت بھیتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر جہاں اس نے نماز پڑھی تھی (بیٹھا) رہے، اور وہ کہتے ہیں: "یا اللہ! تو اس کی مغفرت کر، یا اللہ تو

(۸) مسلم ج ۱ ص ۲۲۷ کتاب المساجد حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال معاشر عن ہمام بن منبہ عن ابی هریرہ عن النبی ﷺ قال.....

جان ہے، میں جو کچھ جانتا ہوں اگر تم بھی جانتے ہوتے تو یقیناً ورنے زیادہ اور
ہنستے کم^(۱)۔

۱۵ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّيْمَ جُنَاحٌ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلَا
يَجْهَلُ وَلَا يَرْفَثُ فَإِنَّ امْرَأَ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلِيُقْلِلُ: إِنَّ صَائِمًا إِنَّ
صَائِمًا.

✓ (۱۵) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: روزہ ایک ڈھال ہے اگر تم میں سے کوئی شخص
کسی دن روزہ رکھے تو اس کو نہ توجہالت سے پیش آنا چاہئے اور نہ فخش کلامی
کرنی چاہئے۔ اگر کوئی شخص اس سے لڑائی کرے یا اس کو گالی دے تو یہ کہنا
چاہئے کہ میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں۔

۱۶ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخَلُوفُ فِيمِ الصَّائِمِ
أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَدْرُشُهُوكَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي
فَالصَّيْمَ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ.

✓ (۱۶) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی
جان ہے۔ یقیناً روزہ دار کے منہ کی بواللہ کے پاس مشک کی بو سے زیادہ اچھی
ہے (اللہ کہے گا) کہ وہ اپنی خواہش، اپنا کھانا اور اپنا پینا میری خاطر چھوڑ دیتا
ہے، پس روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔

(۱) یہاں مند احمد بن حنبل میں ایک حدیث زائد ہے جو صحیفہ ہمام کے دونوں خطوطوں میں
ہے:

”اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی لڑائی کرے تو چرے سے پچے“ (یعنی
مسلمانوں کے من پر گھونسنے لگائے کہ نازک جگہ ہے) بخاری ح، اکابر الحق میں بھی ہمام بن منبہ سے یہ
روایت موجود ہے: حدیث عبداللہ بن محمد حدیث عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ہمام عن ابی هریرہ
عن النبی ﷺ قال: اذا قاتل احدكم فليحتسب الوجه“

(۱۲) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہاری یہ آگ جس کو تم بنی آدم سلاکتے ہو
حرارت میں دوزخ کی آگ سے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ لوگوں
نے کہا: اللہ کی قسم یا رسول اللہ! اگر اتنی بھی ہوتی تو ہم کو کافی تھی۔ آپ نے
فرمایا: دوزخ کی آگ اس سے انہتر درجے زیادہ ہے اور ان میں سے ہر
درجہ حرارت میں اتنا ہے۔

۱۳ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ كِتَابًا فَهُوَ عِنْهُ
فُوقَ الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي.

✓ (۱۳) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب اللہ نے خلقت کو پیدا کیا تو یہ عبارت لکھ
دی اور یہ اس کے پاس عرش کے اوپر (موجود) ہے کہ ”یقیناً میری رحمت
میرے غصب پر غالب ہے۔“

۱۴ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ
لَكُيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِيْكُمْ قَلِيلًا.

✓ (۱۴) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی

(۱۲) مسلم ح ۲ ص ۳۸۱ کتاب الجنۃ باب جہنم، حدیثاً محمد بن رافع حدیثاً عبد
الرزاق حدیثاً معمر عن ہمام بن منبہ عن ابی هریرہ عن النبی ﷺ بمثیل حدیث ابی الزناد غیرہ
قال: ”کلمہ مثل حرّها۔“

۱۳ - وهو عند ابن حنبل بين ۱۴ و ۱۵۔

۱۴ - زاد ابن حنبل هنہا حدیثاً لا يوجد في المخطوطين وهو: ”وقال رسول الله ﷺ :
اذا قاتل أحدكم فليحتسب الوجه“.

(۱۳) بخاری ح ۲۷ کتاب الایمان، حدیث ابراهیم بن موسی اخبرنا هشام هو ابن
یوسف عن معمر عن ہمام عن ابی هریرة قال ابو القاسم ﷺ

(۱۰۵)

صحیفہ ہمام بن منبہ

۱۹ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ تُسْتَجَابُ لَهُ فَأَرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أُخْرِجَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأَمْتَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(۱۹) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر ایک نبی کی ایک منہ مانگی دعا ضرور قبول کی

جائی ہے (اور وہ نے اس کو اس دنیا ہی میں پورا کرالیا) انشاء اللہ تعالیٰ میرا
ارادہ ہے کہ اسے امت کی شفاعت کے لئے قیامت کے دن تک ملتوی کروں۔

۲۰ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَبَ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَ اللَّهَ لِقَائَهُ وَمَنْ لَمْ يُحِبْ لِقَاءَ اللَّهِ لَمْ يُحِبْ اللَّهَ لِقَائَهُ.

(۲۰) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اللہ سے ملاقات کرنی پسند کرتا ہے تو
اللہ بھی اس سے ملاقات کرنی پسند کرتا ہے اور جو شخص اللہ سے ملاقات کرنی
پسند نہیں کرتا تو اللہ بھی اس سے ملاقات کرنی پسند نہیں کرتا۔

۲۱ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (۳) مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِعِ الْأَمْرِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمْرِيْرَ فَقَدْ عَصَانِي.

(۲۱) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (۳) جس شخص نے میری اطاعت کی گویا اس
نے اللہ ہی کی اطاعت کی اور جس شخص نے میری نافرمانی کی تو گویا اس نے اللہ
ہی کی نافرمانی کی، اور جس شخص نے (میرے مقرر کردہ) امیر کی اطاعت کی
گویا اس نے میری ہی اطاعت کی اور جس نے (میرے) امیر کی نافرمانی کی تو
گویا اس نے میری ہی نافرمانی کی۔

۱۹ - بهامش الدمشقیۃ: "خ ادھر" ، وفی البرلینیۃ: "ادھر" فی المتن ، و"ادھر"
بالہامش ،

(۱۰۳)

۱۷ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَوْلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةَ فَلَدَغَتْهُ نَمَلَةٌ فَأَمَرَ بِعِجَاهَزَهُ فَأَخْرَجَ مَنْ تَحْتَهَا وَأَمْرَ بِهَا فَأَخْرَقَتْ فِي النَّارِ فَأُوْحَى [اللَّهُ] إِلَيْهِ فَهَلَا نَمَلَةٌ وَاحِدَةٌ؟

(۱۷) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نبیوں میں سے ایک نبی ایک درخت کے نیچے
اترے تو ایک چیونٹی نے انہیں کاتا، اس پر انہوں نے اپنا سامان وہاں سے نکالوایا
اسے آگ لگا کر جلا جاؤ اس پر (اللہ نے) ان کی طرف وحی کی کہ کیا (صور)
صرف ایک چیونٹی کا نہ تھا؟

۱۸ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بَيْدَهُ لَوْلَا أَنْ أَشْقَى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ تَغْرُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَاحْمِلُهُمْ وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتَبَعُونِي وَلَا تَطِيبُ أَنفُسُهُمْ أَنْ يَقْعُدُوا بَعْدِي.

(۱۸) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمدؐ کی
جان ہے۔ اگر مومنوں پر دشواری کا احتمال نہ ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں لڑنے
والی کسی جماعت کے پیچے نہ بیٹھتا لیکن میں اتنی گنجائش نہیں پاتا کہ ان سب
کیلئے سواری کا انتظام کروں، اور وہ بھی اتنی گنجائش نہیں پائے کہ میرے ساتھ
ساتھ آئیں، اور ان کا جی خوش نہیں ہوتا کہ میرے پیچے بیٹھے رہیں۔

(۱۷) مسلم ج ۲ ص ۲۳۶ کتاب قتل الحیات وغیرها، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا
عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به ابو هريرة عن رسول الله ﷺ
فذكر أحاديث منها و قال.....

(۱۸) مسلم ج ۲ ص ۱۳۳ کتاب الامارة، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق
قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا ابو هريرة عن رسول الله ﷺ.....

۲۴ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَبْعَثَ دَجَالُونَ كَذَابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ.

(۲۵) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ تقریباً تیس (۳۰) جھوٹے دجال نہ نکلیں، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔

۲۵ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَأَهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ وَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا.

(۲۶) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک آفتاب اپنے مغرب سے نہ نکلے۔ (پھر اس کے بعد) جب آفتاب طوع ہو گا اور لوگ اس کو دیکھیں گے تو سب کے سب ایمان لا گئی گے۔ لیکن یہ اس وقت ہو گا جب کہ کسی شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ پہنچائے گا کہ اس سے پہلے نہ تو وہ ایمان لایا تھا اور نہ یہ اپنے ایمان ہی سے کوئی بھائی حاصل کی تھی۔

۲۶ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبِرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرُّاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّاذِينَ فَإِذَا قُضِيَ التَّاذِينَ أَفْلَى يَخْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءَ وَنَفْسِهِ وَيَقُولُ لَهُ: أَذْكُرْ كَذَا أَذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلٍ حَتَّى يَظْلِلَ الرَّجُلُ إِنْ

(۲۷) بخاری ج ۱۴ کتاب المناقب حدیثی عبد اللہ بن محمد حدیثنا عبد الرزاق اخبرنا معمراً عن همام عن ابی هریرۃ عن النبی ﷺ.....

(۲۸) مسلم ج ۱ ص ۸۸ کتاب الایمان، حدیثنا محمد بن رافع قال حدیثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمراً عن همام بن منبہ عن ابی هریرۃ عن النبی ﷺ.....

۲۶ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيْكُمُ الْمَالُ فَيَفْيِضُ حَتَّى يَهُمَّ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَتَقَبَّلُ مِنْهُ صَدَقَتْهُ قَالَ وَيَقْبَضُ الْعِلْمُ وَيَنْتَرِبُ الْرَّمَانُ وَتَظَهَرُ الْفَنَنُ وَيَكْثُرُ الْهَرَاجُ. [قالو: الْهَرَاجُ أَيْ هُوَ يَا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: الْقَتْلُ، الْقَتْلُ.]

(۲۷) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ تم میں مال کی کثرت نہ ہو جائے، وہ بہا بہا پھرے گا یہاں تک کہ مالدار کو اس بات کی فکر ہو گی کہ اس سے اس کا صدقہ (زکوٰۃ) کون قبول کرے گا، اور آپ نے فرمایا اور علم اتحادیا جائے گا، اور زمانہ (قیامت سے) قریب تر ہو جائے گا اور فتنے ظاہر ہو نگی اور ہر جن کثرت سے ہو گا (لوگوں نے کہا) یا رسول اللہ! ہرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: قتل، خوزیری۔

۲۳ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْبَلَ فِتْنَانٍ عَظِيمَاتٍ تَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتُلَةً عَظِيمَةً وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدَةً.

(۲۸) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک دو بڑی جماعتیں آپس میں جنگ نہ کریں، ان دونوں کے درمیان بڑی جنگ ہو گی اور ان دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہو گا۔

(۲۹) قال ابو موسیٰ: الهرج القتل بليسن الحبشة، عن ابی موسیٰ وعن ابی هریرۃ، (بخاری ج ۲۹ کتاب الفتنه) ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ ہرج حصہ کی زبان میں قتل کو کہتے ہیں۔

(۳۰) بخاری ج ۱۴ کتاب المناقب حدیثی عبد اللہ بن محمد حدیثنا عبد الرزاق اخبرنا معمراً عن همام عن ابی هریرۃ عن النبی ﷺ..... مسلم ج ۲ ص ۳۹۰ کتاب الفتنه، حدیثنا محمد بن رافع حدیثنا معمراً عن همام بن منبہ قال: هذا ما حدثنا ابو هریرۃ عن رسول اللہ ﷺ فذكر أحادیث منها وقال رسول اللہ ﷺ.....

یدریٰ کم صلیٰ۔

(۲۶) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب نماز کیلئے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیچھے پھیر کر پادتا ہوا چلا جاتا ہے تاکہ اذان سنائی نہ دے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھر آ جاتا ہے یہاں تک کہ جب نماز کے لئے اقامت کی جاتی ہے تو پیچھے پھیر کر چلا جاتا ہے پھر جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو آدمی اور اس کے نفس کے درمیان خطرہ ڈالنے کے لئے چلا آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ”فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر“ جو اس سے پہلے یاد نہیں آتی تھی۔ یہاں تک کہ آدمی یہ جانے کے قابل نہیں رہتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی۔

(۲۷) - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَعْلَمُ اللَّهُ مَا لَيْسَ لِيَعْلَمُ هُنَّا نَفَقَهُ سَحَاءَ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْدُ خَلْقِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِمَّا فِي يَمِينِهِ قَالَ: وَعَرَشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْأَخْرَى الْقَبْضُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ۔

(۲۸) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کا سید ہماں ہاتھ بھرا ہوا ہے، دن رات کے مسلسل خروج کرنے سے بھی وہ خالی نہیں ہوتا۔ دیکھو تو کہ جب سے کہ اس نے آسمان اور زمین پیدا کئے کیا کچھ نہیں خروج کیا؟ مگر اس کے سید ہے ہاتھ

(۲۹) مسلم ج ۱ ص ۱۶۸ کتاب الصلوة باب الاذان، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا ابو هريرة عن رسول الله ﷺ فذكر أحاديث منها وقال رسول الله ﷺ

(۳۰) بخاری ج ۱۲ کتاب التجاد والسير، حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن همام حدثنا ابو هريرة عن النبي ﷺ مسلم ج ۱ ص ۳۲۲ کتاب الزكوة، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه اخرج وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة عن النبي ﷺ فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله ﷺ

میں جو کچھ ہے وہ کم نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا: اور اس کا عرش (تحت) پانی پر ہے اور اس کے دوسرا ہاتھ میں روک لینے کی قابلیت ہے، وہی بلند کرتا ہے اور وہی پست کرتا ہے۔

۲۸ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ يَوْمًا لَا يَرَانِي ثُمَّ لَا يَرَانِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَثْلِ أَهْلِهِ وَمَالِهِ مَعَهُمْ۔

(۲۸) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کسی پر ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ مجھے نہ دیکھے گا، اس وقت مجھ کو دیکھنا اس سے زیادہ پسند ہو گا جتنا اپنے اہل و عیال اور مال و منوال کو دیکھنا۔

۲۹ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَهْلِكُ كِسْرَى ثُمَّ لَا كِسْرَى بَعْدَهُ وَقِصْرُ لَيْلِكَنْ ثُمَّ لَا يَكُونُ قِصْرٌ بَعْدَهُ وَلَتُتَفَقَّنَ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَسَمَى الْحَرْبَ خِدْعَةً۔

(۲۹) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسری (ایران کا بادشاہ) بلاک ہو جائے گا پھر ✓

(۲۸) مسلم ج ۲ ص ۲۶۴ کتاب الفضائل، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخیرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا ابو هريرة عن رسول الله ﷺ فذكر أحاديث منها وقال رسول الله ﷺ

(۲۹) بخاری ج ۱۲ کتاب الجهاد والسير، حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن همام عن ابی هريرة عن النبي ﷺ قال مسلم ج ۲ ص ۸۳ کتاب الجهاد والسير مسلم ج ۲ ص ۳۹۶ کتاب القتن حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة عن رسول الله ﷺ فذكر أحاديث منها وقال رسول الله ﷺ

٣٢۔ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ صَلَةُ الصُّبْحِ وَاحْدَكُمْ جُنُبٌ فَلَا يَصُومُ يَوْمَئِذٍ.

(۳۲) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب صبح کی نماز کے لئے اذان دی جائے اور تم میں سے کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہو تو اس دن روزہ نہ رکھے^(۱)۔

٣٣۔ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ تِسْعَةُ وَتِسْعَونَ إِسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدَةً مِنْ أَحْسَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنَّهُ وَتَرِيَحُ الْوَتْرِ.

(۳۴) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کے ننانوے نام ہیں: ایک کم سو، جو شخص ان کو یاد رکھے گا وہ جنت میں داخل ہو گا۔ اللہ طاق ہے، طاق (عدد عبادت) کو پسند کرتا ہے۔

٤۔ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ هُوَ فَضْلٌ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخُلُقِ فَلَيُنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ مِمَّنْ فَضْلٌ عَلَيْهِ.

(۳۵) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص ایسے شخص کو دیکھے جس کو اس سے مال اور اخلاق میں فضیلت دی گئی ہو تو اس کو چاہئے کہ ایسے آدمی کو دیکھو جو اپنے سے کم ہونے کے ایسے شخص کو جو بالاتر ہو۔ تاکہ حد کی

٣٢۔ "فَلَا يَصُومُ" کذا لعله "فَلَا يَصُومُ".

(۱) یا توبہ ابتدائی زمانے کی منسوخ شدہ حدیث ہے یا ناشاصل میں یہ کہنا ہے کہ طوع نہ کے بعد ہیوی کے پاس جائیں تو پھر اس دن روزہ نہیں رکھ سکتے۔

٣٣۔ "واحدة" کذا فی المخطوطتين، بدل "واحداً".

(۳۳) مسلم ج ۲ ص ۳۴۲ کتاب الذکر والدعاء حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معاذ عن ابوب عن ابی سیرین عن ابی هریرۃ عن النبی ﷺ و عن ہمام بن منبہ عن ابی هریرۃ عن النبی ﷺ و زاد ہمام بن منبہ عن النبی ﷺ "اہ و تریحوب الوتر"

اس کے بعد کوئی سری نہ ہو گا، اور قیصر (روم کا بادشاہ) بھی ہلاک ہو جائے گا پھر اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہو گا، اور تم ان دونوں کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اور (آس حضرت نے) جنگ کو ایک "دھوکہ" فرمایا۔

٣۔ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: أَعْدَدْتُ $\frac{۳}{۴}$ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنُ رَأَتْ وَلَا أَذْنُ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ.

(۳۰) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے فرمایا: میں نے اپنے صالح بندوں کے لئے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں (۳/۴) جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خطرہ گزرا۔

٣١۔ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِسُوءِ الْهُمَمِ وَأَخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَاءِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَبَيْهُ وَإِذَا أَمْرَتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوْا مِنْهُ مَا مَسْطَعْتُمْ.

(۳۱) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے اس وقت تک چھوڑے رکھو جب تک کہ میں تمہیں چھوڑے رکھوں کیونکہ جو لوگ تم سے پہلے گزرے وہ اپنے پیغمبروں سے سوال کر کے اور پھر ان کو نہ مانے کے باعث ہلاک ہو گئے۔ پھر جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اس چیز سے بچو، اور جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو تم سے جتنا ہو سکے اس پر عمل کرو۔

(۳۰) بخاری ج ۳۰ کتاب التوحید، حدثنا معاذ بن آسید اخبرنا عبد اللہ اخبرنا معاذ عن ہمام بن منبہ عن ابی هریرۃ عن النبی ﷺ .

٣١۔ فی المخطوطتين بالهامش: "خ ترکتم (ای بدل : ترکتكم). و في الدمشقية بالهامش: "خ فاتحروا" (ای بدل : فاتحوا، ورسمه عندہ : فایتو) .

۳۷۔ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نُصِرْتُ بِالرُّغْبِ وَأُوْتِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ۔
(۳۷) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رعب کے ذریعہ سے میری مدد کی گئی اور مجھے جامع کلے دیئے گئے ہیں۔

۳۸۔ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا انْقَطَعَ شَسْعُ نَعْلٍ أَحَدُكُمْ أَوْ شَرَّاكُهُ فَلَا يَمْشِ فِي إِحْدَاهُمَا بِنَعْلٍ وَاحِدٍ وَالْأُخْرَى حَافِيَةً لِيُحْفِيْهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُنْعَلِهِمَا جَمِيعًا۔

(۳۸) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم سے کسی کی چپل کا تسمہ یا پٹہ ثوٹ جائے تو دونوں پاؤں میں سے صرف ایک پاؤں میں چپل پہن کرنے پڑے اور دوسرا (پاؤں) ننگا ہے، یا تو دونوں پاؤں ننگے رکھے یا دونوں پاؤں میں چپل پہن پڑے۔

۳۹۔ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَأْتِي ابْنُ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ أَكُنْ قَدْ فَدَرْتُهُ وَلَكِنْ يَأْلِفُهُ النَّذْرُ وَقَدْ فَدَرْتُهُ لَهُ إِسْتَخْرَاجٌ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ وَيَؤْتِيْنِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ أَتَانِي مِنْ قَبْلٍ۔

(۳۹) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے) نذرمانے سے انسان کو

۳۷۔ بهامش الدمشقیۃ: "خ الكلام" (ای بد: الكلم)

(۳۷) مسلم ج ۲۰ ص ۲۰۰ کتاب المساجد و موضع الصلاة، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا ابو هريرة عن رسول الله ﷺ فذكر أحاديث منها وقال رسول اللہ ﷺ مسلم میں بھی "فليغسله" کے بجائے "ان یغسله" نیز "طہور"

کے ساتھ ساتھ مسلم مطبوعہ ہند کے حاشیہ پر بھی "طہور" درج ہے۔

۳۸۔ "بنعل واحدة" فی البخاری ج ۲۴ کتابلباس "بنعل واحدة" لیحفيهما" فی البخاری ايضاً لیحفيهما"۔

(۳۹) بخاری ج ۲۷ کتاب القدر، حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابو هريرة عن النبي ﷺ قال.....

۳۵۔ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَهُورٌ إِنَاءُ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ فَلِيُغْسِلْهُ سَعْيَ مَرَاتٍ.

(۳۵) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کسی ایک کے برتن میں جب کتاب مہے ڈالے تو اس کو چابٹے کہ پاک کرنے کے لئے سات مرتبہ دھو لے۔

۳۶۔ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمَرَ فَيَكَانَى أَنْ يَسْتَعِدُوا لِي بَحَرَمٍ مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ أَمْرُ رَجُلًا يُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ أَحْرَقَ بَيْوَتًا عَلَى مَنْ فِيهَا.

(۳۶) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میرا بھی چاہتا ہے کہ اپنے نوکروں کو حکم دوں کہ میرے لئے لکڑی کے گھٹے لا یک پھر میں ایک شخص کو حکم دوں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں لوگوں کو (نماز کو نہیں آتے) ان کے گھروں سمیت آگ لگا کر جلاڑاں۔

۳۵۔ بهامش البریینۃ: "خ طہور" (ای بد: طہور)، "فليغسله" و فی الجامع الصغير ج ۱ طبع بمصر "ان یغسله"۔

(۳۵) مسلم ج ۱ ص ۱۳۷ کتاب الطهارة حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا ابو هريرة عن محمد رسول اللہ ﷺ فذكر أحاديث منها وقال رسول اللہ ﷺ مسلم میں بھی "فليغسله" کے بجائے "ان یغسله" نیز "طہور"

کے ساتھ ساتھ مسلم مطبوعہ ہند کے حاشیہ پر بھی "طہور" درج ہے۔

۳۶۔ "ثُمَّ أَحْرَقَ بَيْوَتًا" و فی مسلم عن همام "ثُمَّ تحرق بیوت" ،

(۳۶) مسلم ج ۱ ص ۲۳۲ کتاب المساجد و موضع الصلاة، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة عن رسول الله ﷺ فذكر أحاديث منها وقال رسول اللہ ﷺ مسلم میں بھی "فليغسله".....

کہا، ہرگز نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبد نہیں عیسیٰ نے کہا: میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اپنی آنکھ کو جھلاتا ہوں۔

۴۲ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا أُوتِينَكُمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَا أَمْتَعَكُمُوهُ إِنَّ أَنَا إِلَّا خَازِنٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ.

(۳۲) اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا: میں نہ تو کوئی چیز تمہیں دیتا ہوں اور نہ کوئی چیز تم سے روک لیتا ہوں، میں تو صرف ایک خازن ہوں، مجھے جہاں رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے وہاں رکھتا ہوں۔

۴۳ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا أُوتِينَكُمْ بِهِ فَلَا تَحْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا كَبَرُوكُمْ وَإِذَا رَكِعْ فَارْكُعُوا وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ.

(۳۳) اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا: (۱/۲) امام اس لئے ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس لئے تم امام سے اختلاف نہ کرو، جب وہ تعمیر کئے تو تم بھی تعمیر کرو، اور جب وہ "سمع اللہ لمن حمده" (جو شخص اللہ کی حمد کرتا ہے اللہ اس کو سنتا ہے) کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد! (یا اللہ! اے ہمارے رب تیرے

۴۴ - "انما الامام" والمشهور "انما جعل الامام" "اجمعين" قال في المصباح المنير المطبوع بمصر (جمع) هو تصحيف من المحدثين والوجه "اجمعون"۔

(۳۴) بخاری ج ۳ کتاب الاذان، حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر عن همام عن ابی هريرة عن النبي ﷺ قال: انما جعل الامام.....

مسلم ج ۱ ص ۱۷۷ کتاب الصلوة، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمر عن همام بن متبہ عن ابی هريرة عن النبي ﷺ.....

کوئی ایسی چیز نہیں مل جاتی جو میں نے اس کی قسمت میں مقدرنے کی ہو بلکہ نذر ماننے سے وہ شخص صرف ایسی چیز حاصل کرتا ہے جو میں نے اس کے لئے پہلے ہی سے مقدر کر کی ہے۔ البتہ نذر کی خاطر بخیل سے (کچھ خیرات) نکل آتی ہے اور وہ مجھے اس کی خاطر ایسی چیز دیتا ہے جو اس سے پہلے نہیں دیتا تھا۔

۴۴ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا أُوتِينَكُمْ إِنَّ اللَّهَ قَالَ: أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ وَسَمَّيَ الْحَرْبَ خِدْعَةً.

(۳۰) اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "خیرات کر میں تجھے اور دو زگا" اور آپ نے جنگ کو ایک "دھوکہ" فرمایا۔

۱۱ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا أُوتِينَكُمْ: رَأَى عِيسَى ابْنَ مَرِيمَ رَجُلًا يَسْرُقُ فَقَالَ لَهُ عِيسَى: [سَرَقْتَ؟ فَقَالَ: كَلَّا] وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَقَالَ عِيسَى: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَبْتُ عَيْنِي.

✓ (۳۱) اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا: عیسیٰ بن مریم نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا۔ اس پر عیسیٰ نے اس سے کہا: ^(۱) کیا تو نے چوری کی؟ اس نے

(۳۰) مسلم ج ۱ ص ۳۲۲ کتاب الزکوة، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا عمر عن راشد عن همام بن متبہ اخھی و هب بن متبہ قال هذا ما حدثنا ابو هريرة عن رسول اللہ علیہ السلام فذكر أحاديث منها وقال رسول اللہ علیہ السلام

۴۱ - ضاعت ورقة من البرلينية، و "[]" علامۃ ابتداء السقطة.

(۳۱) بخاری ج ۱۳ کتاب "بُدَءُ الْخُلُقِ"، حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا عمر عن ابی هريرة عن النبي ﷺ قال مسلم ج ۲ ص ۲۶۵ کتاب الفضائل باب فضائل عیسیٰ علیہ السلام، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمر عن همام بن متبہ قال: هذا ما حدثنا ابو هريرة عن رسول اللہ علیہ السلام فذكر أحاديث منها وقال رسول اللہ علیہ السلام

(۱) یہاں سے حدیث نمبر ۵۵ تک مخطوط برلن میں نہیں ہے اور وہ حصہ ضائع ہو گیا ہے۔

موسیٰ ہو جن کو اللہ نے ہر چیز کا علم دیا اور اپنار سول بنا کر دوسرے لوگوں سے برگزیدہ بنایا؟ انہوں نے کہا: ہا۔ (آدم نے) کہا: کیا تم مجھے ایسی بات کے متعلق لامات کرتے ہو جو میری پیدائش سے پہلے ہی لکھ دی گئی تھی کہ میں ایسا کروں گا؟ اس طرح آدم نے موسیٰ کو لا جواب کر دیا۔

۴۶ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَبْيَنُمَا أَيُّوبُ يَعْتَسِلُ عَرْيَانًا خَوَّالِيْهِ رِجْلُ حَرَادٍ مِّنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْسُنُ فِي ثُوْبِهِ قَالَ فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ إِنَّمَا أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَىٰ قَالَ بَلَىٰ يَا رَبَّا وَلَكِنْ لَا غَنِيٌّ لِيْ عَنْ بَرْكَتِكَ.

(۴۶) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک مرتبہ جب کہ ایوب نگہ غسل خانے میں نہار ہے تھے ان پر سونے کی ڈیوں کا ایک دل گرنے لگا اور ایوب ان کو اپنے کپڑوں میں سمیٹنے لگے کہا: پھر ان کے رب نے ان کو آواز دی، اے ایوب! تم نے جو چیز دیکھی ہے کیا میں نے تم کو اس سے بے نیاز نہیں بنایا ہے؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں؟ اے میرے پروردگار! میکن میں تیری برکت سے بے نیاز کہاں ہوں۔

۴۷ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ خُفْفَ عَلَى دَاؤُدَ الْقُرْآنَ فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابَهُ فَسُرَّاجٌ فَكَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تُسَرِّاجَ دَابَّتَهُ وَكَانَ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِيهِ.

(۴۷) بخاری ج ۲ کتاب الغسل بخاری ج ۱۹ کتاب التفسیر بخاری ج ۳۰ کتاب التوحید، حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن همام عن ابی هریرة عن النبی ﷺ قال.....

۴۷ - ”دابَّه“ فی البخاری ج ۱۳ کتاب بدء الخلق عن همام بن منبہ ”دو آبہ“۔

لئے ہی جمہبے) کہو پھر جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔

۴۴ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفَّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ.

(۴۴) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نماز میں صاف باندھ لیا کرو کیونکہ صاف باندھ نہ نماز کا حسن (خوشمندی) ہے۔

۴۵ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَحَاجَّ آدُمُ وَمُوسَىٰ فَقَالَ لَهُمَا مُوسَىٰ أَنْتَ آدُمُ الَّذِي أَغْوَيْتَ النَّاسَ فَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَى الْأَرْضِ فَقَالَ لَهُ آدُمُ أَنْتَ مُوسَىٰ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ عِلْمًا كُلَّ شَيْءٍ وَأَصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَتُلَوْمُنِي عَلَى أُمْرٍ قَدْ كَانَ كَتَبَ عَلَيَّ أَنْ أَفْعَلَ مِنْ قَبْلِ أَنْ أَخْلُقَ؟ فَحَجَّ آدُمُ مُوسَىٰ.

(۴۵) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آدم اور موسیٰ نے (ایک بار) آپس میں جھٹ کی چنانچہ موسیٰ نے ان سے کہا: کیا تم ہی وہ آدم ہو جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا اور ان کو جنت سے زمین پر نکالا؟ اس پر آدم نے ان سے کہا: کیا تم ہی وہ

(۴۶) بخاری ج ۳ کتاب الاذان حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبہ عن ابی هریرة عن النبی ﷺ

مسلم ج ۱ ص ۱۸۲ کتاب الصلوة، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا معمر عن همام بن منبہ قال هذا ما حدثنا ابو هریرة عن رسول اللہ ﷺ فذكر أحاديث منها وقال رسول اللہ ﷺ

(۴۷) مسلم ج ۲ ص ۳۳۵ کتاب القدر، حدثنا ابن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبہ عن ابی هریرة عن النبی ﷺ

وَأَنفُسَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.

- ✓ (۵۰) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں لوگوں سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک کہ وہ یہ نہ کہیں کہ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (اللہ کے سوائے کوئی معبد نہیں) جوں ہی وہ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے قائل ہو جائیں تو مجھ سے ان کے خون اور مال اور جانیں محفوظ ہو جائیں گی بجز ان کے حق کے ^(۱) اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔
- ۵۱ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَجَاجَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ: أَوْيُرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَرِّبِينَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: فَمَالِيٌّ لَا يَدْخُلُنِي إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَغَرِّتُهُمْ فَقَالَ اللَّهُ لِلْجَنَّةِ: إِنَّمَا أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمْتُ بِكِ مِنْ أَشَاءَ مِنْ عِبَادِيٍّ وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِيٍّ: أَعَذَّبْتُ بِكِ مِنْ أَشَاءَ مِنْ عِبَادِيٍّ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مَلَؤُهَا، فَإِنَّمَا النَّارُ قَلَّا تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا رَجُلٌ، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ فَهُنَّا لَكَ تَمْتَلِئُ وَيَزْوِي بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ، وَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ مَنْ خَلَقَهُ (۴/۶)

أَحَدًا وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنْشِي لَهَا خَلْقًا.

- (۵۱) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (ایک مرتبہ) جنت اور آگ (دوسرے) آپس میں جنت کرنے لگے۔ دوزخ نے کہا: مجھے مغرو اور ظالم لوگوں کی قیام کا

(۱) یعنی کسی اور کا حق دلانے کے لئے سزاۓ موت یا ہر جانہ دیا جاسکتا ہے۔

- (۵۲) بخاری ج ۲۰ کتاب التفسیر (سورہ ق) حدثنا عبد اللہ بن محمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمراً عن همام عن أبي هريرة قال قال النبي ﷺ

مسلم ج ۲ ص ۳۸۲ کتاب الجنۃ، باب جهنم، حدثنا عبد اللہ بن رافع حدثنا عبد الرزاق

حدثنا معمراً عن همام بن منبہ قال وهذا ما حدثنا ابو هريرة عن رسول اللہ ﷺ فذكر أحاديث منها

وقال رسول اللہ ﷺ

(۲۷) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: داؤڈ کو قرآن ^(۱) پڑھنا آسان کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر زین لگانے کا حکم دیتے تھے اور گھوڑے پر زین لگنے سے پہلے ہی (پورا) قرآن پڑھ لیا کرتے تھے اور وہ سوائے اپنے ہاتھ کی کمائی کے کوئی چیز نہیں کھایا کرتے تھے۔

۴۸ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُؤْيَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةِ وَارْبَعِينَ جُزْءًَ مِّنَ النُّبُوَّةِ.

(۲۸) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: صالح آدمی کا خواب نبوت کا چھیا یوساں حصہ ہے۔

۴۹ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ.

(۲۹) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: چھوٹے کو بڑے پر، اور گزرنے والے کو بیٹھے ہوئے پر اور قلیل (جماعت) کو کثیر (جماعت) پر سلام کرنا چاہئے۔

۵۰ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا أَزَالُ أَفَاقِيلُ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَائُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ

(۳۷) بخاری ج ۱۳ کتاب بدء الخلق، بخاری ج ۱۹ کتاب التفسير حدثني اسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمراً عن همام عن أبي هريرة عن النبي ﷺ

(۱) یہاں قرآن سے زبور مراد ہے۔

۴۸ - ”رؤیا الرجل الصالح“ فی الجامع الصغير ج ۱ ص ۴۳۱ عن الصحيحين ومسنده احمد بن حنبل وابن ماجہ ”رؤیا المعلوم“.

(۳۹) بخاری ج ۲۵ کتاب الاستذان حدثنا محمد بن مقابل ابو الحسن اخبرنا عبد اللہ اخبرنا معمراً عن همام بن منبہ عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال.....

بنے کے لئے مجھے ترجیح دی گئی ہے اور جنت نے کہا: کیا بات ہے کہ مجھ میں ضیغنوں اور پست اور بھولے لوگوں کے سوائے اور کوئی داخل نہ ہو گا اس پر اللہ نے جنت سے کہا: تو میری رحمت ہے میں تیرے ذریعہ سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں رحم کروں گا، اور دوزخ سے کہا: تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعہ سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں عذاب دوں گا اور تم میں سے ہر ایک بھر جائے گی لیکن دوزخ اس وقت تک نہ بھرے گی جب تک کہ اللہ اس میں اپنا پاؤں نہ رکھ دے پھر (دوزخ) کہے گی: بس، بس وہ اس وقت بھر جائے گی اور اس کا ایک حصہ دوسرے سے مل جائے گا اور اللہ اپنی مخلوق میں سے (۲/۱) کسی پر ظلم نہیں کرتا، رہی جنت تو اس کے لئے اللہ عزوجل ایک مخلوق پیدا کرے گا۔

۵۲۔ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا أَسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوْقُرُ.

(۵۲) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص ذہلیہ لے تو طاق (عداد میں) لے۔

۵۳۔ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِيْ بَأْنَ يَعْمَلُ حَسَنَةً فَإِنَّا أَكْتَبْهَا لَهُ حَسَنَةً مَا لَمْ يَعْمَلْهَا، فَإِذَا عَمِلَهَا فَإِنَّا أَكْتَبْهَا لَهُ بِعْشَرِ أَمْثَالِهَا، وَإِذَا تَحَدَّثَ بَأْنَ يَعْمَلُ سَيِّئَةً فَإِنَّا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا فَإِذَا عَمِلَهَا فَإِنَّا أَكْتَبْهَا لَهُ بِمُوَلَّهَا.

(۵۳) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب میرا بندوں میں یہ کہے کہ نیک کام

(۵۳) مسلم ج ۱ ص ۷۸ کتاب الایمان، حدیثاً محمد بن رافع قال حدیثاً عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا ابوهربيرة عن رسول الله ﷺ فذكر احاديث منها وقال رسول الله ﷺ.....

کرے گا تو میں اس کے لئے ایک نیکی لکھ لیتا ہوں جب تک کہ وہ اس کو نہ کرے پھر جب وہ اس کو کرتا ہے تو میں اس کے لئے اس جیسی دس (نیکیاں) لکھ لیتا ہوں، اور جب یہ کہے کہ وہ برآ کام کرے گا تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں جب تک کہ وہ برآ کام نہ کرے، پھر جب وہ برآ کام کرتا ہے تو میں اس کے لئے صرف ایک برائی لکھ لیتا ہوں۔

۴۵۔ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَاللَّهِ لِقِيَدٍ سَوْطٌ أَحَدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ لَهُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

(۵۴) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں ایک شخص ہے^(۱) جسکے کوڑے کی ذوری (جو جنت میں ملے گی) آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس سے بھی بہتر ہے۔

۵۵۔ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ أَدْنَى مَقْعَدٍ أَحَدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِنْ هُبِيَ لَهُ أَنْ يُقَالَ لَهُ: تَمَنَّ، فَيَتَمَنِّي وَيَتَمَنِّي فَيُقَالَ لَهُ هَلْ تَمَنَّيْتَ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمَمْلِهُ مَعَهُ.

(۵۵) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت میں تم میں سے کسی کا ادنیٰ ٹھکانا اگر اس کے لئے تیار کیا جائے تو اس سے کہا جائے گا: آرزو کر، پھر وہ آرزو کرے گا

(۱) ایک غریب گرگوکار صحابی کی تعریف ہے۔

۵۵۔ "إِنْ هُبِيَ لَهُ" ساقط من المشكاة باب صفة الجنة واهلها ص ۴۹۶ [] "علامة انتهاء المسقطة من البرلینية ،

(۵۵) مسلم ج ۱ ص ۱۰۱ کتاب الایمان حدیثاً محمد بن رافع قال حدیثاً عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا ابوهربيرة عن رسول الله ﷺ فذكر احاديث منها وقال رسول الله ﷺ.....

مذہبی ہمام بن صحیفہ

شوہر سے خیانت نہ کرتی۔

— ٥٨ — وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا خَلَقَهُ، قَالَ إِذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ - وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ - فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيِّنُوكَ، فَإِنَّهَا تَحِيَّنُكَ وَتَحِيَّ ذُرَيْتِكَ، قَالَ فَذَهَبَ، فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا: [السَّلَامُ] عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَرَأَوْهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، قَالَ: فَكُلُّ مَنْ يُدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَمْ يَزَلِ الْحَقُّ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الْآتِينَ.

(۵۸) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ نے آدم کو اپنی شکل پر بنایا^(۱) ان کی لمبائی ساٹھ ہاتھ تھی پھر جب ان کو پیدا کیا تو ان سے کہا: ”جاو اور اس جماعت کو سلام کرو“۔۔۔۔۔ یہ فرشتوں کی ایک بیٹھی ہوئی جماعت تھی۔ اور سنو کہ وہ تم کو سلام کا کیا جواب دیتے ہیں؟ وہی تمہارا اور تمہاری..... اولاد کا سلام ہوگا۔ ”کہا: پھر وہ گئے اور کہا: السلام علیکم (تم پر سلامتی ہو) انہوں نے کہا: (السلام علیک) و رحمة الله (اور تھجھ پر سلام اور اللہ کی رحمت ہو) انہوں نے

٥٨ - بهامش البرلینية : "خ معا: يحيونك" (ای بدل : يحیونک)، و فيه أيضاً "خ معا: فزادوا" (ای بدل: فزادوا).

(٥٨) بخاری ج ١٣ کتاب بدء الخلق، حدثی عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق
اعینا معمراً عن همام عن ابی هریره قال قال رسول الله ﷺ مسلم ج ٢ ص ٣٨٠
الجنة حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمراً عن همام بن منه قال: هنا ما حدثنا
ابو هریرة عن رسول الله ﷺ فذكر أحاديث منها وقال رسول الله ﷺ
(١) اللہ مننا، وکیمہ، بولہ، ارادہ کرتا، پیدا کرتا، چانتا، ایجاد کرتا ہے اور دیگر صفتیں رکھتا ہے،
آفتاب کی رحمائیوں کی طرح انسان میں بھی چھوٹے پتائے پر یہ صفتیں ہیں جو دوسروں سے چانوروں میں نہیں۔

آرزو پر آرزو کرے گا۔ اس پر اس سے کہا جائے گا: کیا تو نے آرزو کر لی؟^(۱) وہ کہے گا ہاں۔ پھر اس سے کہا جائے گا: تجھ کو تمیری آرزو کے موافق دیا جاتا ہے پلکہ اس کے ساتھ اس جیسا اور۔

٥٦- وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُنْتُ أَمْرًا مِّنَ الْأَنْصَارِ، وَلَوْ
يَنْدَعُ النَّاسُ فِي شَعْبَةٍ أَوْ فِي وَادٍ، وَالْأَنْصَارُ فِي شَعْبَةٍ لَانْدَعَتْ مَعَ
الْأَنْصَارِ فِي شَعْبَهِمْ.

✓ (۵۶) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر بھرت نہ ہوتی تو میں انصار ہی کا ایک آدمی ہوتا، اگر لوگ ایک گھٹائی یا ایک وادی میں جاتے اور انصار ایک دوسری گھٹائی میں تو میں انصار کے ساتھ ان کی گھٹائی میں جاتا۔

٥٧ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُؤْمِنِينَ: لَوْلَا بْنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْبِثُ الطَّعَامُ وَلَمْ يَخْتَرِ
اللَّحْمُ وَلَوْلَا حَوَاءً لَمْ تَخْنُ أَنْثى زَوْجَهَا الدَّهْرَ.

(۵۷) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر بھی اسرائیل^(۱) نہ ہوتے تو کھانا خراب نہ ہوتا اور گوشت سڑنہ جاتا اور اگر حواء^(۲) نہ ہوتیں تو کوئی عورت کبھی اپنے

(1) مخطوط بر لین کے گم شدہ ورق کی عمارت بیساں ختم ہوتی ہے۔

^{٥٦} "في شعبة" في الجامع الصغير ج ١ ص ٣٨٩ "في شعب" كذا رواه أحمد والشيخان وأظن هذا هو الصحيح لأن آخر الحديث "في شعبهم".

٥٧- في المخطوطنين : "بنو اسرائيل" .

(٥٧) بخاري ج ١٣، كتاب بدء الخلق، حديث عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عمّير عن همام عن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ.....

(۲) جب تک آدمی اللہ پر توکل کرتا رہا اور روز کی غذائی اور خرچ کرتا رہا، چیزیں سڑتی گئیں۔
 (۳) جن کاشیہ میں کام نہ کیا۔

(۳) جنت کا سچر ممنوع کھانے کا مشورہ دینا سارو اور معلوم ہوتا ہے۔

”ورحمتہ اللہ“ زیادہ کیا۔ کہا: ہر وہ شخص جو جنت میں داخل ہو گا آدم کی صورت کا ہو گا، اس کی لابی سائٹھ ہاتھ ہو گی۔ پھر اس کے بعد مخلوق (قد میں) اب تک گھٹتی ہی گئی ہے۔

۵۹۔ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهِ السَّلَامُ: جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَىٰ، فَقَالَ لَهُ: أَجِبْ رَبِّكَ، قَالَ: فَلَطَّمَ مُوسَىٰ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ، فَفَقَاهَا، قَالَ: فَرَجَعَ الْمَلَكُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَكَ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ، وَقَدْ فَقَاهُ عَيْنِي، قَالَ: (۱۰/۵) فَرَدَ اللَّهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ، قَالَ: إِرْجِعْ إِلَى عَبْدِيِّ، فَقُلْ لَهُ: الْحَيَاةُ تُرِيدُ؟ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ، فَصُبْعُ يَدِكَ عَلَى مَتْنِ ثُورٍ، فَمَا وَارَتْ يَدُكَ مِنْ شَعْرَةٍ فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً، قَالَ: ثُمَّ مَمُوتٌ؟ قَالَ: فَلَا إِنَّ مِنْ قَرِيبٍ، قَالَ: رَبِّ ادْفِنْنِي مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمِيْةً بِحَجَرٍ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهِ السَّلَامُ: لَوْ أَنِّي عِنْدَ لَأْرِيَتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ.

(۵۹) اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا: موت کا فرشتہ موسیٰ کے پاس آیا اور ان سے کہا: تمہارے پرو دگار کے پاس چلو۔ کہا: اس پر موسیٰ نے موت کے فرشتہ حربت کی آنکھ پر طما نچھا اور آنکھ پھوڑا۔ کہا: پھر فرشتہ اللہ کے پاس واپس گیا اور

(۵۹) بخاری ج ۶ کتاب الجنائز، بخاری ج ۱۳ کتاب بدء الخلق باب وفاة موسى، حدثنا يحيى بن موسىٰ حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن همام حدثنا ابو هريرة عن النبي علیہ السلام قال.....

مسلم ج ۲ ص ۲۶۷ کتاب الفضائل باب فضائل موسىٰ علیہ السلام، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبہ قال: هذا ما حدثنا ابو هريرة عن رسول الله علیہ السلام فذكر أحاديث منها وقال رسول الله علیہ السلام.....

کہا: تو نے مجھے اپنے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنائیں چاہتا اور میری آنکھ پھوڑا۔ کہا: (۱۰/۵) اس پر اللہ نے اس کو اس کی آنکھ واپس کر دی، فرمایا: میرے بندے کے پاس جا اور اس سے کہہ: کیا تو زندہ رہنا چاہتا ہے اگر تو زندہ رہنا چاہتا ہے تو اپنا ہاتھ ایک بیل کی پیٹھ پر کر۔ تیر ہاتھ جتنے بال ڈھانک لے گا تو اتنے سال زندہ رہے گا۔ (موسیٰ نے) کہا: پھر کیا ہو گا؟ کہا: پھر تم مر جاؤ گے، کہا: پھر تو اب جلد ہی بہتر ہے۔ کہا: اے میرے رب! مجھے ارض مقدس سے اتنا ہی قریب کر دے جتنا کہ ایک پھر پھنسنے کا فاصلہ ہوتا ہے اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا: اگر میں ان کے پاس ہوتا تو تم کو راستے کے کنارے سرخ ٹیکے قریب ان کی قبر بتلاتا۔

۶۰۔ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهِ السَّلَامُ: كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عَرَاهَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوَّاَةٍ بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَىٰ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَىٰ أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدِرٌ، قَالَ: فَذَهَبَ مَرَةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، قَالَ: فَجَمَحَ مُوسَىٰ فِي أَثْرِهِ، يَقُولُ: ثَوْبِيُّ حَجَرٌ، ثَوْبِيُّ حَجَرٌ، حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوَّاَةٍ مُوسَىٰ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا بِمُوسَىٰ مِنْ بَأسٍ، قَالَ: فَقَامَ الْحَجَرُ بَعْدَ مَا نُظِرَ إِلَيْهِ، فَاخْدَعَ ثَوْبَهُ، وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرَبًا، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللَّهِ إِنَّهُ نَدَبَ بِالْحَجَرِ سِتَّةً أَوْ سَبْعَةً ضَرَبَ مُوسَىٰ بِالْحَجَرِ.

۶۰۔ فِي الْمُخْطُوفَتَيْنِ: ”بَنُو إِسْرَائِيلُ“، ”وَاللَّهُ أَنْ يَالْحَجَرِ لَنَدِيَ بِهِ مِنْ أَثْرِ ضَرِبِهِ ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعاً أَوْ خَمْسَةً“، کذا فی البخاری ج ۱۳ کتاب بدء الخلق .

✓ (۶۲) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مالدار کا وعدہ کوٹلتے رہنا بھی ایک ظلم ہے تم میں سے کسی پیٹ بھرے سے پالا پڑے تو چاہئے کہ اس کا پیچھا کرے۔
۶۳ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْيِظُ رَجُلٌ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبُشُهُ وَأَغْيِظُهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلْكُ الْأَمْلَاكِ لَا مَلْكٌ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

✓ (۶۴) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کو سب سے زیادہ غصہ میں لانے والا اور سب سے زیادہ خبیث اور اللہ کا سب سے زیادہ غصہ اٹھانے والا وہ شخص ہو گا جس کو شاہ شاہان (بادشاہوں کا بادشاہ) کہتے ہوں، اللہ عزوجل کے سوائے کوئی بادشاہ نہیں ہے۔

۶۵ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخَّرُ فِي بُرْدَينَ وَقَدْ أَعْجَبَهُ نَفْسُهُ خُسِيفٌ بِالْأَرْضِ فَهُوَ يَتَحَجَّلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(۶۶) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک شخص تھا دو چاروں میں اکثرتے ہوئے چل رہا تھا اور اس کو اپنے نفس پر غور تھا تھے میں وہ زمین میں دھنس گیا^(۱)

(۶۷) مسلم ج ۲ ص ۱۸ کتاب البیوع، حدثنا محمد بن رافع قال اخبرنا عبد الرزاق حدثنا عمر عن همام بن منبہ عن النبي ﷺ

(۶۸) مسلم ج ۲ ص ۳۰۸ کتاب الادب، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر عن همام بن منبہ قال: هذا ما حديثنا ابو هريرة عن رسول الله ﷺ فذكر أحاديث منها و قال رسول الله ﷺ ... رسول الله ﷺ فذكر أحاديث منها و قال رسول الله ﷺ ...

(۶۹) مسلم ج ۲ ص ۱۹۵ کتاب البابس حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر عن همام بن منبہ قال: هذا ما حديثنا ابو هريرة عن رسول الله ﷺ فذكر أحاديث منها و قال رسول الله ﷺ ...
(۱) غالباً قاتلوا من مراد به۔

? (۶۰) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بنی اسرائیل ننگے نہیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کی شرم گاہ دیکھتے تھے، اور موسیؑ تباہیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے کہا: اللہ کی قسم! موسیؑ کو ہمارے ساتھ نہانے سے کوئی چیز نہیں روتی مگر یہ کہ وہ خسیوں کی بیماری میں بیٹلا ہوں گے، کہا: ایک مرتبہ وہ نہانے کے لئے گئے، اور اپنا کپڑا ایک پتھر پر رکھا، پتھران کے کپڑے لے بجا گا، کہا: پتھر موسیؑ اس کے پیچھے یہ کہتے ہوئے بجا گے کہ "میرا کپڑا پتھر، میرا کپڑا پتھر، پتھر تو بی اسرائیل نے موسیؑ کی شرم گاہ کو دیکھ لیا اور انہوں نے کہا: اللہ کی قسم! موسیؑ میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ کہا: ان کی شرم گاہ پر نظر پڑ جانے کے بعد پتھر غیر گیا، انہوں نے اپنا کپڑا لے لیا اور پتھر کو مارنے لگے، پتھر ابو ہریرہ نے کہا: اللہ کی قسم! پتھر پر نشان ہیں جو چھیسا سات بار موسیؑ نے مارے تھے۔

۶۱ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الْغَنَى مِنْ كُثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغَنَى غَنَى النَّفْسِ.

(۶۲) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کثیر مال سے تو نگری نہیں ہے بلکہ تو نگری نفس کی تو نگری ہے۔

۶۲ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنَ الظُّلْمِ مَطْلُ الْغَنَى وَإِنْ أَتَيْتَ أَحَدًا كُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلَيُتَبَيَّنَ.

(۶۳) بخاری ج ۲ کتاب الغسل، حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معاشر عن همام بن منبہ عن ابی هريرة عن النبي ﷺ

مسلم ج ۱ ص ۱۵۴ نیز مسلم ج ۲ ص ۲۶۶ کتاب الفضائل، باب فضائل موسیؑ عليه السلام، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن همام بن منبہ قال: هذا ما حديثنا ابو هريرة عن رسول الله ﷺ فذكر أحاديث منها و قال رسول الله ﷺ ...

لِذَنْبٍ وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ: إِنَّمَا هُوَ عَجْبٌ وَلَكِنَّهُ قَالَ: بِالْمِيمِ.

(۶۷) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: انسان میں ایک بڑی ہوتی ہے، اس کو زمین کبھی نہیں کھاتی، اسی سے وہ قیامت کے دن مرکب ہو گا۔ لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ! کوئی بڑی؟ آپ نے فرمایا ”عجم لذب“ (ریڑھ کی بڑی) اور ابو الحسن نے کہا: وہ ”عجب“ ہے لیکن ”میم“ سے (عجم) فرمایا۔

(۶۸) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيَّاكُمْ وَالْوَصَالَ، إِيَّاكُمْ وَالْوَصَالَ، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي لَسْتُ فِي ذَلِكُمْ مِثْلُكُمْ إِنِّي أَبِيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّيْ وَيَسْقِيْنِيْ فَاكْلَفُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةً.

(۶۹) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم (صوم) وصال (نفل روزے پے در پے) نہ رکھا کرو، لوگوں نے کہا: مگر آپ خود (صوم) وصال رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: میں اس بارے میں تمہارے جیسا نہیں ہوں: میں رات گزارتا ہوں تو میرا پور دگار مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، پس تم ایسے ہی عمل کی تکلیف اٹھاؤ جس کی تھیں طاقت ہو۔^(۱)

(۷۰) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اسْتَيقَظَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَضْعُ يَدَهُ فِي الْوُضُوءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا إِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ أَيْنَ بَاتَ يَدُهُ.

(۷۱) مسلم ج ۲ ص ۴۰۷ کتاب الفتن، حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا ابو هريرة عن رسول الله ﷺ فذكر احاديث منها وقال رسول الله ﷺ.....

(۱) جو لوگ سال بھر نفل روزے ریاضت کے طور پر ساری عمر رکھنا چاہتے ہیں؟ اس کی ممانعت ہے۔

(۷۲) ”يَضْعُ“ فی البخاری ج ۱ کتاب الوضوء ”يَدْخُل“ و ”إِنَّهُ“ فیه أيضًا ”فَانَّهُ“.

اور وہ قیامت کے دن تک دھنستار ہے گا۔

(۶۵) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّمَا عِنْدَ طَنْ عَبْدِيْ بِيْ.

(۶۶) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے فرمایا: میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جیسا مگان کہ وہ میرے ساتھ رکھتا ہے۔

(۶۷) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يُوَلِّدُ يُوْلُدُ عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ فَابُوَاهُ يُهَوَّدَ إِنَّهُ وَيَنْصَرَ إِنَّهُ كَمَا تَنْتَجُونَ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءٍ حَتَّى تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجْدِعُونَهَا؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! (۵/ب) افَرَأَيْتُ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ؟ قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.

(۶۸) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص پیدا ہوتا ہے وہ اس فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پس اس کے ماں باپ اس کو یہودی ہنا دیتے ہیں اور اس کو نصرانی ہنا دیتے ہیں جس طرح تم جانور سے بچے پیدا کرتے ہو تو کیا تم ان میں ناک کان کٹا پاتے ہو؟ یہاں تک کہ تم خود نہ کاٹو (یعنی بچے کو تم خود نہ کاٹو یا نصرانی ہنا تے ہو وہ خود بخود نہیں بنتا)، لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ! (۵/ب) (کافروں کا جو شخص بچپن میں مر جاتا ہے اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا: وہ بچے جو کچھ کرنے والے اللدان کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔

(۶۹) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِي الْإِنْسَانِ عَظِيمًا لَا تَأْكُلُهُ الْأَرْضُ أَبَدًا فِيهِ يُرِكُبُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قَالُوا: أَيُّ عَظِيمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: عَجْمٌ

(۷۰) بخاری ج ۲۷ کتاب القدر، حدثی اسحاق اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن همام عن ابی هريرة قال قال رسول الله ﷺ - مسلم ج ۲ ص ۳۳۶ کتاب القدر، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا ابو هريرة عن رسول الله ﷺ فذكر احاديث منها وقال رسول الله ﷺ.....

۷۱۔ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَامٌ: إِذَا مَا رَبُّ النَّعْمِ لَمْ يُعْطِ حَقُّهَا تَسْلَطَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَخْبَطُ وَجْهُهُ بِأَخْفَافِهَا.

(۷۲) اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا: جب جانوروں کا مالک جانوروں کا حق (یعنی زکوٰۃ) ادا نہیں کرتا، تو قیامت کے دن اس کے وہی جانور (بطور عذاب) اس پر مسلط کر دیے جائیں گے جو اپنی لا تین اس کے منہ پر مارتے رہیں گے۔

۷۲۔ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَامٌ: يَكُونُ كُنْزٌ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَقْرُءُ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَيَطْلُبُهُ وَيَقُولُ: أَنَا كُنْزُكَ، قَالَ: وَاللَّهِ لَنْ يَرَأَلَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يَسْطُطَ يَدَهُ، فَيَلْقِمُهَا فَاهُ.

(۷۳) اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا: تم میں سے کسی ایک کا خزانہ قیامت کے دن گنجایشی نہایت زہر یا سانپ بن جائے گا، صاحب خزانہ اس سے بھاگنا چاہے گا لیکن وہ اس کا پیچھا کرے گا اور کہے گا: میں تیر خزانہ ہوں۔ فرمایا: اللہ کی قسم اود پیچھا کرتا ہی رہے گا یہاں تک کہ (اس زکوٰۃ نہ دینے والے) شخص کو اپنے قبضے میں لا کر اپنا نوالہ بنالے گا۔

۷۳۔ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَامٌ: لَا يَأْلُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ بِهِ.

(۷۴) اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا: جو اپنی تھہرا ہوا ہے اور بہتا نہیں ہے اس میں

(۷۵) بخاری ج ۲۸ کتاب الحیل، حدیثی اسحاق حدیثنا عبد الرزاق حدیثنا معمر عن همام بن منبہ عن ابی هریرہ قال رسول اللہ علیہ السلام.....

(۷۶) بخاری ج ۲۸ کتاب الحیل، حدیثی اسحاق حدیثنا عبد الرزاق حدیثنا معمر عن همام بن منبہ عن ابی هریرہ قال رسول اللہ علیہ السلام.....

(۷۷) مسلم ج ۱ ص ۱۳۸ کتاب الطهارة، حدیثنا محمد بن رافع قال حدیثنا عبد

(۶۹) اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص سو کراٹھے تو اس کو چاہئے کہ اپنا تھدھوئے بغیر وضو کے پانی میں نہ ڈالے، تم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ رات کہاں رہا ہے۔

۷۰۔ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَامٌ: كُلُّ سَلَامٍ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ قَالَ: تَعْدِلُ بَيْنَ الْاثْنَيْنِ صَدَقَةً وَتَعْيَنُ الرَّجُلُ فِي دَابَّتِهِ وَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةً وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطْوَةٍ تُمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَتُمْبِطُ الْأَذَى عَنِ الظَّرِيقِ صَدَقَةً.

(۷۰) اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا: لوگوں کا چھوٹی سی بڑی (کسی کو دینا) بھی اس وقت تک کے لئے نیکی ہے جب تک کہ آفتاب طلوع ہوتا رہے۔ آپ نے فرمایا: دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا بھی نیکی ہے، اور کسی آدمی کو سوار ہونے میں مدد دینا اور اس کو یا اس کے اسباب کو سوار کرنا بھی نیکی ہے اور میشی اچھی بات کرنا بھی نیکی ہے اور ہر قدم جو نماز کی طرف چل کر جائے وہ بھی نیکی ہے اور راستے سے ایذا دو کرنا بھی نیکی ہے۔

(۷۰) مسلم ج ۱ ص ۱۳۶ کتاب الطهارة، ما حدیثنا محمد بن رافع قال حدیثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن همام بن منبہ عن ابی هریرہ قال رسول اللہ علیہ السلام.....

(۷۰) بخاری ج ۱۲ کتاب الجهاد والسير(۷۰) بخاری ج ۱۲ کتاب الجهاد والسير، حدیثی اسحاق اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن همام عن ابی هریرہ قال رسول اللہ علیہ السلام.....

مسلم ج ۱ ص ۳۲۵ کتاب الزکوٰۃ، حدیثاً محمد بن رافع قال حدیثنا عبد الرزاق بن همام قال حدیثنا معمر عن همام بن منبہ قال هذا ما حدیثنا ابو هریرہ عن النبي علیہ السلام فذ کراحدیث منها و قال رسول اللہ علیہ السلام.....

کواس کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھنا چاہئے (۲) اور اس کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو آنے کی اجازت نہ دینی چاہئے۔ اور اس کی آمد نے سے اس کے حکم کے بغیر جو کچھ خیرات کرے تو اس کا آدھا ثواب شہر کو ملے گا (یعنی علاوه مال کے ثواب کے، نفس فعل خیرات دہی کا بھی پورا ثواب عورت کو نہ ملے گا)۔

۷۶۔ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ وَلَا يَدْعُوهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيهِ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ - او' قال: أَجَلَهُ - إِنَّهُ لَا يَرِيدُ الْمُؤْمِنُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا خَيْرًا.

(۷۶) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص موت کی خواہش نہ کرے، اور اس کے آنے سے پہلے اس کی وعانہ کرے، جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا "عمل" منقطع ہو جاتا ہے۔۔۔ یا آپ نے فرمایا: اس کی "زندگی" ختم ہو جاتی ہے۔۔۔ مومن کی عمر زیادہ ہونے سے اس کی بھلائی میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔

۷۷۔ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ لَا يَقُلُّ أَحَدُكُمُ لِلْعَنْبِ [الْكَرْمِ] إِنَّمَا الْكَرْمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ.

کی طرح بخاری میں "لاتصوم" ہے۔

۷۶۔ "لَا يَتَمَنِي..... وَلَا يَدْعُوهُ" فی شرح الجامع الصغير للعزیزی ج ۴ ص ۴۳۰ "وفی روایة همام لا يتمن احدكم الموت ولا يدع به".

(۷۶) مسلم ج ۲ کتاب الذکر والدعا، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معاشر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا ابو هريرة عن رسول الله ﷺ فذكر أحاديث منها وقال رسول الله ﷺ.....

پیشاب کر کے پھر اسی سے عسل نہ کرنا چاہئے۔

۷۴۔ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الْمِسْكِينُ هَذَا الطَّوَافُ الَّذِي يَطْلُو فَعَلَى النَّاسِ تَرْدَدُ الْلُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالْمُمْرَةُ وَالْمُمْرَقَاتَانِ إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غُنْيَيْهِ وَيَسْتَحِيْيَ أَنْ يُسْأَلُ النَّاسُ وَلَا يُقْطَعُ لَهُ فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ.

(۷۷) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ چکر لگانے والا جو (بھیک مانگنے کے لئے) لوگوں کے پاس چکر لگایا کرتا ہے اور ایک لقمہ یادو لقے یا ایک بھوریا دو بھور پاتا ہے تو وہ مسکین نہیں ہے، اصل میں مسکین وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو اور لوگوں سے مانگنے میں شرم کرے اور لوگ اس کی حالت نہیں جانتے کہ اس کو کچھ خیرات دے سکتے۔

۷۵۔ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ: لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا يَإِذْنُهُ (۶/۶) وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا يَإِذْنُهُ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ.

(۷۸) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کسی عورت کا شہر گھر پر موجود ہو تو اس عبدالرزاق حدثنا معاشر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا ابو هريرة عن رسول الله ﷺ فذكر احادیث منها وقال رسول الله ﷺ.....

۷۵۔ "لاتصوم" فی مسلم ج ۱ ص ۲۳۰ "لاتصم" عن همام بن منبه.

(۷۵) بخاری ج ۲۱ کتاب النکاح، حدثنا محمد بن مقائل اخبرنا معاشر عن همام بن منبه عن ابو هريرة عن النبي ﷺ.....

مسلم ج ۱ ص ۳۳۰ کتاب الزکوة، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معاشر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا ابو هريرة عن محمد رسول الله ﷺ فذكر احادیث منها وقال رسول الله ﷺ..... لا تصوم المرأة..... گو مسلم میں "لاتصم" ہے لیکن صحیفہ ہمام

لے لو، میں نے تو تم سے زمین خریدی تھی، سونا نہیں خریدا تھا، مگر جس شخص نے زمین فروخت کی تھی اس نے کہا: میں نے تو زمین اور جو کچھ اس میں ہے تمہیں پیش کیا تھا۔ اس پر ان دونوں نے ایک کو حکم (پیش) بنا لیا۔ حکم نے کہا: کیا تمہاری اولاد ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا: میرا ایک لڑکا ہے اور دوسرے نے کہا: میری ایک لڑکی ہے۔ اس نے کہا: لڑکے سے لڑکی کی شادی کرو اور سونا اپنے ہی پر خرچ کرو اور صدقہ دو^(۱)۔

۷۹۔ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَيَقْرَحَ أَحَدَكُمْ بِرَاحِلَتِهِ إِذَا ضَلَّ مِنْهُ ثُمَّ وَجَدَهَا؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اللَّهُ أَحَدُهُمَا فَرَحًا بِبَوْبِةِ عَبْدِهِ إِذَا تَابَ مِنْ أَحَدِكُمْ بِرَاحِلَتِهِ إِذَا وَجَدَهَا.

(۷۹) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے اگر کسی کی سواری کا جانور گم ہو جائے پھر مل جائے تو کیا اس کو خوشی ہو گی کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا: ہاں، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو بندہ کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی کہ کسی شخص کو (گم شدہ) سواری کے پھر مل جانے سے (خوشی ہوتی ہے)

۸۰۔ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: إِذَا تَلَقَّانِي عَبْدِيْ بِشَبَرٍ تَلَقَّيْتُهُ بِنِيرَاعٍ وَإِذَا تَلَقَّانِي بِنِيرَاعٍ تَلَقَّيْتُهُ بِبَاعٍ وَإِذَا تَلَقَّانِي بِبَاعٍ جِئْتُهُ—أَوْ قَالَ: أَتَيْتُهُ—بِاسْرَاعٍ۔

(۱) اپنے بچوں کو یہ رقم دے دینا گویا اپنے آپ پر خرچ کرتا ہے اور ساتھ ہی یہ ایک سیکی بھی ہے۔

(۷۹) مسلم ج ۲ ص ۳۵۴ کتاب التوبۃ، حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق اخبرنا عن همام بن منبه عن ابی هریرۃ عن النبی ﷺ قال.....

(۷۷) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص عرب (انگور) کو "کرم" نہ کہے، کرم تو مرد مسلمان کرتا ہے۔

۷۸۔ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلِ عِقَارٍ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي أَشْتَرَى الْعِقَارَ فِي عِقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي أَشْتَرَى الْعِقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي، إِنَّمَا أَشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ، وَلَمْ أُبَتِعْ مِنْكَ الذَّهَبَ، فَقَالَ الَّذِي شَرَى الْأَرْضَ: إِنَّمَا بَعْتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا، فَتَحَكَّمَ إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الَّذِي تَحَكَّمَ إِلَيْهِ الْكُمَّا وَلَدْ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لِيْ غَلامٌ، وَقَالَ الْآخَرُ: لِيْ جَارِيَةٌ، فَقَالَ: أَنْكِحْ الْغَلامَ الْجَارِيَةَ، وَأَنْفَقُوا عَلَى أَنْفُسِكُمَا مِنْهُ، وَتَصَدِّقَا.

(۷۸) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک شخص تھا جس نے کسی سے ایک زمین خریدی، پھر جس شخص نے زمین خرید کی تھی اس نے اپنی زمین میں ایک گھر پایا۔ جس میں سونا تھا، زمین کے خریدار نے (باائع سے) کہا: مجھ سے تمہارا سونا

(۷۷) مسلم ج ۲ ص ۲۳۸ کتاب الفاظ من الادب وغيرها، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة عن رسول اللہ ﷺ فذكر أحاديث منها وقال رسول اللہ ﷺ : لا يقول احدكم للعنبر الكرم انما الكرم الرجل المسلم۔

۷۸۔ "انکح" وفى البخارى باب ما ذكر عن بنى اسرائيل ص ۴۹۲ "انکحوا" على افسكما" فيه ايضا "انفسهمما"۔

(۷۸) بخارى ج ۲ کتاب بدء الخلق حدثنا اسحاق بن نظير اخبرنا عبدالرزاق، عن معمر عن همام عن ابى هریرۃ قال، قال رسول اللہ ﷺ مسلم ج ۲ ص ۷۷ کتاب الاقضية، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا ابو هريرة عن رسول اللہ ﷺ فذكر أحاديث منها وقال رسول اللہ ﷺ

(۸۰) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے فرمایا: جب میرا بندہ مجھ سے ایک باشٹ آگے بڑھ کر ملتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ بڑھ کر ملتا ہوں، اور جب میرا بندہ مجھ سے ایک ہاتھ بڑھ کر ملتا ہے تو میں اس سے دو ہاتھ بڑھ کر ملتا ہوں، اور جب مجھ سے دو ہاتھ بڑھ کر ملتا ہے تو میں اس کے پاس اس سے زیادہ تیز جاتا ہوں، یا یہ فرمایا کہ ”آتا ہوں“ (راوی کو الفاظ میں شک ہے)

(۸۱) - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا جَاءَكُمُ الصَّانِعُ بِطَعَامِكُمْ قَدْ أَغْنَى عَنْكُمْ حَرَةً وَدُخَانَهُ فَادْعُوهُ فَلَيَأْكُلُ مَعَكُمْ وَإِلَّا فَالْقُمُوْهُ فِي يَدِهِ (او: لِيَنَاوِهِ فِي يَدِهِ) (۶/۶ ب).

(۸۲) جب تمہارا کھانا پکانے والا تمہارے پاس تمہارا کھانا لائے، جس نے تمہیں گرمی اور دھونکیں سے بچایا تو اس کو بھی اپنے ساتھ کھانے کے لئے بلا ورنہ اس کے ہاتھ میں لقمہ ہی دے دو (یا: ”اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو“) (۶/۶ ب) فرمایا (یہ فرمایا وہ راوی کوشک ہے)

(۸۴) - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَقُلُّ أَحَدُكُمْ إِسْقِ رَبَّكَ وَأَطْعِمْ رَبَّكَ وَضَبِّنْ رَبَّكَ وَلَا يَقُلُّ أَحَدُكُمْ رَبِّيْ وَلَيَقُلُّ سَيِّدُ مَوْلَايْ وَلَا يَقُلُّ أَحَدُكُمْ عَبْدِيْ أَمَتِيْ وَلَيَقُلُّ فَقَائِيْ فَتَائِيْ غَلامِيْ.

(۸۲) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے: ”تمہارے رب کو پانی پلاو“ یا ”تمہارے رب کو کھانا کھلاؤ“ اور ”تمہارے رب کے لئے (چراغ) روشن کرو“ اور تم میں سے کوئی شخص کسی کو یہ نہ کہے: ”میرا رب“

(۸۳) - بهامش البرلینیۃ: ”خ معما: بطعام“ (ای بدل بطعامکم).

(۸۲) بخاری ج ۱۰ کتاب الرہن، حدثنا عبد الرزاق اخیرنا معمر عن همام بن منبه اللہ ﷺ سمعی ابا هریرہ یحدث عن النبی ﷺ انه قال..... مسلم ج ۲ ص ۲۳۸ کتاب الفاظ من الادب وغیرها، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذَا ما حدثنا ابو هریرہ عن رسول اللہ ﷺ فذکر أحادیث منها و قال رسول اللہ ﷺ

(۸۰) مسلم ج ۲ ص ۳۴۱ کتاب الذکر والدعاء، حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذَا ما حدثنا ابو هریرہ عن رسول اللہ ﷺ فذکر أحادیث منها و قال رسول اللہ ﷺ

(۸۱) مسلم ج ۱ ص ۱۲۴ کتاب الطهارت، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذَا ما حدثنا ابو هریرہ عن محمد رسول اللہ ﷺ فذکر أحادیث منها و قال رسول اللہ ﷺ

(۸۲) بخاری ج ۲۹ کتاب الشمنی، حدثنا اسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع ابا هریرہ عن النبی ﷺ فذکر أحادیث منها و قال رسول اللہ ﷺ

بلکہ یہ کہے "میرا سردار" ، "میرا مولا" اور تم میں سے کوئی شخص "میرا بندہ" ، "میری بندی" نہ کہے بلکہ "میرا پچھہ" ، "میری پچی" ، "میرا لڑکا" کہے۔

۸۵ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْلُ زُمْرَةٍ تَلْجُ الْجَنَّةَ صُورَهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لِيَلَةَ الْبَدْرِ لَا يَصْفُونَ فِيهَا وَلَا يَمْتَحِطُونَ وَلَا يَنْغُوطُونَ فِيهَا آنِيَتُهُمْ وَأَمْسَاطُهُمْ مِنَ الدَّهَبِ وَالْفَضَّةِ وَمَجَامِرُهُمْ مِنَ الْأَلْوَةِ وَرَشَحَهُمُ الْمَسْكُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مُنْخُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ الْلَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ لَا اخْتِلَافٌ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغِضُ قُلُوبُهُمْ عَلَى قُلُوبِ وَاحِدٍ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا .

۸۵) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یا اللہ! میں تجھے سے ایک عبد لیتا ہوں تو اس کے خلاف نہ ہونے دے، میں تو ایک بشر (انسان) ہوں^(۱) (دو یہ کہ نہ میں نے کسی مومن کو ایذا دی ہے یا اس کو گالی دی یا اس کو مارا ہے یا اس پر لعنت پھیگی ہے تو اس کو رحمت اور پاکیزگی اور قربت بنا دے جس کے ذریعہ وہ قیامت کے دن (اللہ سے) تقرب حاصل کرے۔

۸۶ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ تَحْلُ الْغَنَائِمُ لِمَنْ كَانَ فَلَّا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَطَيَّبَهَا لَنَا .

(۸۷) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے لئے غیمت کا

میں سے نظر آئے گا۔ (جنت کے) لوگوں کے درمیان نہ تواختلاف ہو گا اور نہ ان کے لوگوں میں ایک دوسرے سے بغض ہو گا، وہ صحیح شام اللہ کی حمد و شابیان کریں گے۔

۸۶ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَخْدِعُنَّكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَهُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَذِيَتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ فَاجْعَلْهَا صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقْرِبُهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

(۸۶) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یا اللہ! میں تجھے سے ایک عبد لیتا ہوں تو اس کے خلاف نہ ہونے دے، میں تو ایک بشر (انسان) ہوں^(۱) (دو یہ کہ نہ میں نے کسی مومن کو ایذا دی ہے یا اس کو گالی دی یا اس کو مارا ہے یا اس پر لعنت پھیگی ہے تو اس کو رحمت اور پاکیزگی اور قربت بنا دے جس کے ذریعہ وہ قیامت کے دن (اللہ سے) تقرب حاصل کرے۔

۸۷ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ تَحْلُ الْغَنَائِمُ لِمَنْ كَانَ فَلَّا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَطَيَّبَهَا لَنَا .

(۸۷) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے لئے غیمت کا

۸۶ - "لن تخلفه" فی مسلم ج ۲ ص ۳۲۴ "لن تخلفنيه". مقططف ورقہ اخیری من ب، و "[] علامہ ابتدائہا .

(۱) "[]" مخطوطہ بر لین کا دوسرا اور قیہاں سے گم ہے۔

(۸۷) "لم تحل" فی مسلم ج ۲ ص ۸۵ "فلم تحل" و سیأتی فی رقم (۱۲۳) .

(۸۷) مسلم ج ۲ ص ۸۵ کتاب الجهاد والمسير، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر عن همام بن منبه قال: هذا ماحدثنا ابو هريرة عن رسول اللہ ﷺ فذكر أحاديث منها وقال رسول اللہ ﷺ نيزد كيمحى صحيفہ ہمام کی حدیث نمبر ۱۲۳ کا آخری حصہ۔

۸۵ - فی المخطوطتين: "يسقوون" ثم صحق في الدمشقية: "بيصفون" ، "ساقها" في الصحبحين "ساقهما" ، "على قلب" ، "على" ساقط من الصحبحين.

(۸۵) بخاری ج ۱۲ کتاب بدء الخلق، حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا عمر عن همام بن منبه عن ابی هريرة قال رسول اللہ ﷺ

مسلم ج ۲ ص ۳۷۹ کتاب الجنۃ، حدثنا محمد بن رافع حدثنا عمر عن همام بن منبه قال هذا ماحدثنا ابو هريرة عن رسول اللہ ﷺ فذکر أحاديث منها و قال رسول اللہ ﷺ

مال حلال نہیں تھا^(۱)۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے ہمارے ضعف اور ہماری عاجزی کو دیکھا، اسی لئے اس نے اس کو ہمارے لئے پاک بنادیا۔

۸۸ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْبَشِّرَى: دَخَلَتْ اِمْرَأَةُ النَّارَ مِنْ جِرَاءِ هَرَّةٍ لَهَا أَوْ هَرَّةٍ رَبَطْتُهَا فَلَا هِيَ اطْعَمْتُهَا وَلَا هِيَ ارْسَلْتُهَا تَقْهِيمًا مِنْ خِشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّىٰ مَاتَتْ هَرَّلًا.

۸۸) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک عورت تھی جو اپنی بیلی کی وجہ سے (یا یہ فرمایا: بیلی کو باندھ رکھنے کی وجہ سے) وزن میں گئی چنانچہ نہ تو وہ اس کو کھانا ذلتی تھی اور نہ چھوڑ ہی دیتی تھی کہ وہ خود ہی زمین کے کیڑے مکوڑے، پرنے کپڑا کر کھالے، یہاں تک کہ وہ بیلی فاقہ کر کے مر گئی۔

۸۹ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْبَشِّرَى: لَا يَسْرُقُ سَارِقٌ وَهُوَ حِينَ يَسْرُقُ مُؤْمِنٌ وَلَا يَزَّنِي زَانٌ وَهُوَ حِينَ يَزَّنِي مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْحَدُودُ أَحَدُكُمْ - يَعْنِي الْخَمْرَ - وَهُوَ حِينَ يَشْرَبُهَا مُؤْمِنٌ وَاللَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَتَهَبَ أَحَدُكُمْ نُهْبَةً ذَاتٍ شَرْفٍ يَرْفَعُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أَعْيُنُهُمْ فِيهَا وَهُوَ حِينَ يَتَهَبُهَا مُؤْمِنٌ وَلَا يَغْلُ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغْلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَإِنَّكُمْ وَإِنَّكُمْ

(۱) بلاد سے اللہ کے نام پر جلواد بنے کا حکم تھا جیسا کہ موجودہ توریت میں بھی ذکر ہے۔

۸۸ - "تقهم" لعله "ترمرم" "ونلقم" كما في النهاية ج ۲ ص ۹۰۱۔

۸۸) مسلم ج ۲ ص ۲۳۷ کتاب البر والصلة، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال عبد الرزاق

۸۹ - بهامش الدمشقية : يحاذى السطر الذي ينتدى بكلمة "يرفع" ويتهى بكلمة "لا يغل" : "خ مع: حيئتذ". (كانه بدل "حین")، "الحدود" لعله "العجوز" فإنه من اسماء الخمر.

(۸۹) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی شخص چوری کرنے کی حالت میں (سچا) مومن نہیں ہوتا، کوئی شخص زنا کرنے کی حالت میں مومن نہیں ہوتا، کوئی شخص منوع چیز یعنی شراب پینے کی حالت میں مومن نہیں ہوتا۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ کوئی شخص عزت دار ہو کر (نکاح میں کھجور مصری) اس طرح لوٹے کہ لوگوں کی نظر وہ میں نکو ہو جائے تو اس حال میں وہ مومن نہیں ہوتا۔ تم میں سے کوئی شخص دغا بازی کرے تو دغا بازی کرنے کی حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا۔ بچتے رہو، بچتے رہو۔

۹۰ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْبَشِّرَى: وَاللَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِيْ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأَمْمَةِ وَلَا يَهُودِيٌّ وَلَا نَصَارَائِيٌّ وَمَاتَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّذِي أَرْسَلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

(۹۰) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس امت کا کوئی شخص، یا یہودی یا نصاری میرا تذکرہ سنے اور مر جائے اور اس چیز پر ایمان نہ لائے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے تو وہ وزن کے لوگوں میں ہو گا۔

۹۱ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْبَشِّرَى: التَّسْبِيحُ لِلْقَوْمِ وَالنَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ فِي الصَّلَاةِ.

(۸۹) مسلم ج ۱ ص ۵۶ کتاب الایمان، حدثنا محمد بن رافع قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابی هريرة عن النبی ﷺ کل ہولاء بمثل حدیث الزهری غیر ان العلاء وصفوان بن سالم ليس في حدیثهما "يرفع الناس اليه فيها ابصارهم" وفي حدیث همام "يرفع اليه المؤمنون اعينهم فيها وهو حين يتهى بها مومن" وزاد "ولا يغل احدكم حين يغل وهو مومن فاياكم اياكم"۔

۹۱ - "للقوم" في الصحيحين، كتاب الصلاة "للرجال"۔

کیا، پھر تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟

۹۴۔ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنِّي لَأُنْقِلُ إِلَى أَهْلِي فَاجِدُ النَّمَرَةَ سَاقِطَةً عَلَىٰ فِرَاشِي أَوْ فِي بَيْتِي فَارْفَعُهَا لَا كَلَّهَا ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَالْقِيَمَةِ.

(۹۲) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں اپنے گھروالوں کے پاس جاتا ہوں تو میں اپنے بستر پر (یا یہ فرمایا: اپنے گھر میں) سمجھو رہا ہو پاتا ہوں اور میں اس کو کھانے کے لئے اٹھا لیتا ہوں، پھر مجھے خوف ہوتا ہے کہ شاید صدقے کا ہو، پھر میں اس کو ڈال دیتا ہوں۔

۹۵۔ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا يَلْعَجَ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ أَتَمْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِي كَفَارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ.

(۹۵) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کسی کا قسم کھانے کی وجہ سے اپنے اہل و عیال کے پاس نہ جانا اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے بہ نسبت اس کے کہ وہ اپنا کفارہ ادا کرے جس کو (قسم توزنے پر) اللہ نے فرض کیا ہے۔

۹۶۔ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَكْرَهَ الْإِثْنَانِ عَلَى الْيُمِينِ فَاسْتَحِيَا هُمَا

(۹۶) بخاری ج ۹ کتاب فی النقضة، حدثنا محمد بن مقائل اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابی هریرة عن النبي ﷺ قال.....

مسلم ج ۱ ص ۳۴۴ کتاب الرکوة، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا ابو هریرة عن محمد رسول الله ﷺ ذکر احادیث منها وقال رسول الله ﷺ.....

(۹۵) بخاری ج ۲۷ کتاب الایمان حدثی اسحاق بن ابراهیم اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا ابو هریرة عن النبي ﷺ قال: نحن الاخرون السابعون يوم القيمة فقال رسول الله ﷺ والله، لان يلعن احدكم.....

(۹۱) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نماز میں مردوں کو سُجَّانَ اللَّهَ کہنا چاہئے اور عورتوں کو تالی بجائی چاہئے (یعنی نماز میں امام کوئی غلطی کرے تو اس کو آگاہ کرنے کے لئے۔ مترجم)

۹۲۔ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: كُلُّ كَلْمٍ يُكَلِّمُ بِالْمُسْلِمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَكُونُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كَهِيَتَهَا إِذَا طُعِنَتْ يُفْجَرُ دَمًا، الْلَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ.

(۹۲) (۷/۱) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر زخم جو مسلمان کو اللہ کی راہ میں لگے، قیامت کے دن اسی صورت کا ہو گا جب کہ وہ نیزے سے زخمی ہوا، خون ہر رہا ہو گا، رنگ تو خون کا رنگ ہو گا مگر خوشبو مشک کی سی خوشبو ہو گی۔

۹۳۔ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا تَرَأْلُونَ تَسْتَفْتُونَ حَتَّىٰ يَقُولُ أَحَدُكُمْ: هَذَا اللَّهُ خَلَقَ الْحَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ؟

(۹۳) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم ہمیشہ دریافت پر دریافت کرتے رہو گے، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی یہ بھی کہے گا کہ: یہ اللہ ہے جس نے مخلوق کو پیدا

(۹۱) مسلم ج ۱ ص ۱۸۰ کتاب الصلوة، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا معمر عن همام عن ابی هریرة عن النبي ﷺ بمثابة مثله وزاد فی الصلوة۔

۹۲۔ "یکلم" فی جامع الصغیر ج ۲ ص ۱۶۹ عن ابی هریرة "یکلمه" یکون" فی الجامع الصغیر "تکون" و "یفجح" فی "ایضا نفجح" متفق علیہ.

(۹۲) بخاری ج ۱ کتاب الوضوء، حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابی هریرة عن النبي ﷺ قال.....

مسلم ج ۲ ص ۱۳۳ کتاب الامارة، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن ابی هریرة عن رسول الله ﷺ ذکر احادیث منها و قال رسول الله ﷺ.....

النارِ.

(۹۹) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ممکن ہے کہ (وہ ہتھیار) شیطان اس کے ہاتھ سے نکال لے اور پھر وہ شخص آگ (دوزخ) کے گڑھے میں گر پڑے (اگر بے ارادہ ایک مسلمان کو قتل کر دے)

۱۰۰ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُوَ حَيْثُنَدِي يُشَيرُ إِلَى رُبَاعِيَّتِهِ.

(۱۰۰) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قوم پر اللہ کا غصہ بہت سخت ہو گیا جب کہ اس نے اللہ کے رسول ﷺ کے ساتھ (یہ) کیا اور آپ اس وقت اپنے سامنے کے چار دوستوں کی طرف اشارہ فرمادے تھے۔^(۱)

۱۰۱ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتَلُ رَسُولَ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

(۱۰۱) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کا غصب اس شخص پر بہت سخت ہو جاتا ہے

(۹۹) بخاری ج ۲۹ کتاب الفتنه، حدثنا محمد بن رافع اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمعت ابا هريرة عن النبي ﷺ قال مسلم ج ۲ کتاب البر والصلة والادب، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منهہ قال: هذا ما حدثنا ابو هريرة عن رسول الله ﷺ فذكر أحاديث منها وقال رسول الله ﷺ.....

(۱۰۰) بخاری ج ۱۶ کتاب المغاری، حدثنا اسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام انه سمع ابا هريرة قال، قال رسول الله ﷺ.....

(۱) غزوہ احمد کی طرف اشارہ ہے جس میں کفار نے رسول الله ﷺ کا وانت شہید کر دیا تھا۔

(۱۰۱) مسلم ج ۲ ص ۱۰۸ کتاب الجهاد والسیر حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منهہ قال: هذا ما حدثنا ابو هريرة عن رسول الله ﷺ فذكر

فَأَسْهُمْ بَيْنَهُمَا.

(۹۶) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب وہ لوگ قسم کھانے کے لئے مجبور کئے جائیں اور دونوں حیا کریں تو ان کے درمیان قرعہ ڈالو۔

۹۷ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِذَا مَا أَحَدُكُمْ اشْتَرَى لِفْحَةً مُصَرَّأَةً أَوْ شَاءَ فَهُوَ يُخَيِّرُ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا إِمَّا هِيَ وَإِلَّا فَلِيُرَدِّهَا وَصَاعَدَ مِنْ تَمَرِ.

(۹۷) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص او نئی یا بکری خرید کرے جس کا دودھ دھو کا دینے کے لئے کئی وقت کا نہ نچوڑا گیا ہو تو اس کو دودھ نچوڑنے کے بعد دو با توں کا اختیار ہو گا، یا تو اس کو رکھ لے ورنہ اس کو واپس کر دے اور ایک صاع کھجور دے دے (دودھ کے معاوضہ میں)

۹۸ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْشَّيْخُ شَابٌ عَلَى حُبِّ الْثَّنَيْنِ: طُولُ الْحَيَاةِ وَكَثْرَةُ الْمَالِ.

(۹۸) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بوڑھا آدمی دوچیزوں کی محبت میں جوان ہوتا ہے: لمی عمر اور مال کی کثرت۔

۹۹ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا يُشَيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسَّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعْلَ الشَّيْطَانُ أَنْ يَنْتَزِعَ مِنْ يَدِهِ فِيقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ

(۱۰۰) مسلم ج ۲ ص ۵ کتاب البيوع، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منهہ قال: هذا ما حدثنا ابو هريرة عن النبي ﷺ فذكر أحاديث منها وقال رسول الله ﷺ.....

۹۸ - "الشيخ شاب" في الحجامع الصغير ج ۲ ص ۳۹ "الشيخ يضعف جسمه وقلبه شاب على حب".

جس کو اللہ کا رسول، اللہ کی راہ میں قتل کرے۔^(۱)

۱۰۲ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَمَّا أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلِيُخْفَفِ الصَّلَاةُ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرُ وَفِيهِمُ الْضَّعِيفُ وَفِيهِمُ السَّقِيمُ وَإِنْ قَامَ وَحْدَهُ فَلِيُطْلِعْ صَلَاةَ مَا شَاءَ.

لا مَحَالَةٌ، قَالَ: فَالْعَيْنُ زَيْتُهَا النَّظَرُ وَتَصْدِيقُهَا الإِعْرَاضُ وَاللِّسَانُ زَيْتُهُ الْمَنْطَقُ وَالْقَلْبُ زَيْتُهُ التَّمَنُّ وَالْفَرَجُ يُصَدِّقُ بِمَأْمَمُ أَوْ يُكَذِّبُ.

۱۰۳ - اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا: ہر اولاً آدم کے لئے زنا کا بھی کچھ حصہ مقدر ہے، وہ اس کو لازمی طور پر پاتا ہے، فرمایا: آنکہ کازنا (نامحرم پر) نظر کرنا ہے اور اس کی تصدیق نظر موڑ لینا ہے، اور زبان کازنا (خشش) بات چیت ہے، اور دل کا زنا خواہش کرنا ہے اور شرم گاہ گناہ کی تصدیق کرتی ہے یا جھٹائی ہے۔

۱۰۴ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ (۷/۸) حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضَعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَلْقَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

۱۰۵ - اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کو اچھا بنا دے پھر تو ہر ایک (۷/۸) بیکی جو وہ کرتا ہے اس جیسی دس سے سات سو گونا لکھ ل جاتی ہیں اور ہر برائی جو وہ کرتا ہے اس جیسی ہی (یعنی صرف ایک گناہ) لکھ ل جاتی ہے یہاں تک کہ وہ اللہ عن زوجل سے جامتا ہے۔

احادیث منها و قال رسول الله علیہ السلام

(۱) ابی بن خلف کو جو مکہ میں رسول اللہ علیہ السلام کو بڑی ایذا دیتھا، غزوہ احدی میں رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھ سے مارا جانا نصیب ہوا۔ اللهم عافنا۔

(۲) بخاری ج ۱ کتاب الایمان، حدثنا مسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق

خبرنا معمر عن ابی هریرہ قال قال رسول الله علیہ السلام

۱۰۶ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَمَّا أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلِيُخْفَفِ الصَّلَاةُ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرُ وَفِيهِمُ الْضَّعِيفُ وَفِيهِمُ السَّقِيمُ وَإِنْ قَامَ وَحْدَهُ فَلِيُطْلِعْ صَلَاةَ مَا شَاءَ.

(۱۰۷) اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی امام بن کر لوگوں کو نماز پڑھائے تو اس کو چاہئے کہ نماز کو منحصر بنا دے کیونکہ جماعت میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ضعیف بھی ہوتے ہیں، اور اگر تہما نماز کے لئے کھڑا رہے تو اپنی نماز کو جتنا چاہے دراز کر سکتا ہے۔

۱۰۸ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: يَا رَبِّ! ذَلِكَ عَبْدُ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً وَهُوَ أَبْصَرٌ بِهِ، فَقَالَ: إِرْقُبُوهُ فَإِنْ عَمِلَهَا فَأَكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا إِنْ تَرَكَهَا فَأَكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَائِي.

(۱۰۹) اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا: ملائکہ (فرشتہ) (بعض وقت) کہتے ہیں: "اے رب! یہ بندہ گناہ کا راراہ کر رہا ہے۔" اللہ تو اس کو سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے اس پر اللہ فرماتا ہے: اس کو دیکھتے رہو، اگر وہ اس کو کرے تو اس کو اس جیسا ہی (ایک گناہ) لکھ لو اور اگر اس کو چھوڑ دے تو اس کو اس کیلئے ایک تینی لکھ لو، بے شک اس نے اس گناہ کو میری خاطر چھوڑا ہے۔

۱۱۰ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: كَذَبَنِي عَبْدِي وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ، وَشَتَمَنِي عَبْدِي وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ، أَمَّا تَكْذِيبِهِ إِيَّاهُ أَنْ يَقُولَ: لَنْ يُعِيدَنَا كَمَا بَدَأْنَا، وَأَمَّا شَتَمِهِ إِيَّاهُ أَنْ يَقُولَ: إِتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأَنَا الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لِّي كُفُواً أَحَدًا.

(۱۱۱) "[]" علامہ انتہاء السقطہ فی ب . و "لَنْ يُعِيدَنَا كَمَا بَدَأْنَا" و فی المشکاة ج ۱
كتاب الایمان عن ابی هریرہ "لَنْ يُعِيدَنَا كَمَا بَدَأْنَا" رواہ البخاری۔

حائے قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ دوبارہ وضو کر لے۔

١٠٩ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَأَتُوهَا وَإِنْتُمْ تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ. فَمَا أَدْرِ كُمْ فَصَلَوَا، وَمَا سُبْقُتُمْ فَأَتَمُوا.

(۱۰۹) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب نماز کے لئے اذان دی جائے تو اس کے لئے جاؤ مگر اس طرح چلو کہ تم پر سکون واطمینان ہو، جتنی نماز ملے اس کو پڑھ لواور جو چھوٹ گئی ہے اس کو پورا کر لو۔^(۱)

١١٠ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَضْحَكُ اللَّهُ لِرَجُلِينِ يَقْتَلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كَلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالُوا: وَكَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: يُقْتَلُ هَذَا فَيَلْجُ الجَنَّةَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْآخَرِ فَيَهُدِيهِ إِلَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُسْتَشْهِدُ.

(۱۰) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ ان دو آدمیوں کو دیکھ کر بنتا ہے جن میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دیا ہو اور پھر بھی دونوں جنت میں جائیں۔ لوگوں نے عرض کیا: کس طرح؟ یا رسول اللہ! فرمایا: یہ قتل ہو گیا اس لئے جنت میں داخل ہو گا، پھر دوسرے پر اللہ مہربانی کرے گا اور اس کو اسلام کی ہدایت دے

(١٤٩) مسلم ج ١ ص ٢٢٠ كتاب المساجد، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر عن همام بن منهه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله ﷺ فذكر أحاديث منها وقال رسول الله ﷺ.....

(٤٠) یعنی رکعت لینے کے لئے بے تحشیا بھاگنا نہیں چاہئے۔

(٤١) مسلم ج ٢ ص ١٣٧ کتاب الامارة حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق
قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هَرِيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ
مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.....

(۱۰۶) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے فرمایا: میرا بندہ مجھے جھلاتا ہے اور یہ اس کے لئے مناسب نہیں اور میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے^(۱) اور یہ اس کے لئے مناسب نہیں اس کا یہ کہنا مجھے جھلانا ہے کہ: ”وہ ہم کو اس طرح ہرگز دوبارہ پیدا نہ کرے گا جس طرح اس نے ابتداء میں پیدا کیا تھا۔“ اس کا یہ کہنا مجھے گالی دینا ہے کہ: ”اللہ نے کسی کو بیٹا بنالیا ہے۔“ اور میں بے نیاز ہوں: نہ جتنا ہوں اور نہ جنگا ہوں اور نہ میرا کوئی ہوسے ہے۔

١٠٧ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَعْرِدُوا عَنِ الْحَرَّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرَّ مِنْ فَيْحَ جَهَنَّمَ.

(۷۰) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دھوپ ذرا سختدی ہونے کے بعد نماز پڑھو، کیونکہ سخت دھوپ دوزخ کی بھاگ سے۔

١٠٨ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقْبِلُ صَلَاةً أَحَدُكُمْ إِذَا أَحَدَتْ حَتَّى
يَتَوَضَّأَ.

(۱۰۸) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کسی شخص کی نماز جب کہ وضو لوث
 (۱) "مختلط بر لین کا گشیدہ و درق پیہاں ختم ہوتا ہے۔

(٤٧) مسلم ج ١ ص ٢٢٤ كتاب المساجد، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منه قال: هذا ما حدثنا ابوهريرة عن رسول الله ﷺ فذكر أحاديث منها وقال رسول الله ﷺ

(١٠٨) بخاري ج ١ كتاب الوضوء، حدثنا اسحاق حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام
عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال بخاري ج ٢٨ كتاب الجيل

مسلم ج 1 ص 119 كتاب الطهارة، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا عمر بن راشد عن همام بن منهي اخي وهب بن منهي قال هذا ما حدثنا ابو هريرة عن محمد رسول الله ﷺ فذكر احاديث منها و قال رسول الله ﷺ

رحمت سے نہ دیکھے گا (یعنی) جس کی لگی (بہت لانی) مخنوں سے یونچ تک ہو)
 ۱۱۵ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَوةُ الرَّحْمَةِ: قَلِيلٌ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: أَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا
 وَقُولُوا حِطَّةً يَغْفِرُ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ فَبَدَلُوا: فَدَخَلُوا الْبَابَ يَرْحَفُونَ
 عَلَى إِسْتَاهِمْ وَقَالُوا: حَمْهَ فِي شَعِيرَةٍ.

(۱۱۵) اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا: اُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً يَغْفِرُ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ (۲) (تم دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو "حِطَّة" ہمارے گناہوں کو معاف کر) وہ تمہاری خطاؤں کو معاف کریگا مگر انہوں نے (ان الفاظ کو بدلتا دیا: اور دروازہ میں اپنی پچوتاؤں سے رینگتے ہوئے داخل ہوئے اور حمہ فی شعیرہ (جو میں گیہوں) کہنے لگے۔

۱۱۶ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَوةُ الرَّحْمَةِ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الظَّلَلِ فَاسْتَعِجِمْ الْقُرْآنَ
 عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فَلَيُضْطَجِعْ.

(۱۱۶) اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص رات کو نماز کے لئے کھڑا رہے پھر اس کی زبان سے قرآن صاف نہ نکلے اور جانے کے قابل نہ

(۱۱۵) بخاری ج ۱۳ کتاب بدء الخلق، حدیثی اسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه انه سمع ابا هريرة يقول: قال رسول الله علیہ السلام مسلم ج ۲ ص ۴۱۹ کتاب الزهد، حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حديثنا ابو هريرة عن رسول الله علیہ السلام ذكر أحاديث منها وقال رسول الله علیہ السلام

(۱۱۶) مسلم ج ۱ ص ۲۶۷ کتاب صلوٰۃ المسافرین، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حديثنا ابو هريرة عن رسول الله علیہ السلام ذكر أحاديث منها وقال رسول الله علیہ السلام

گا، پھر وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا اور شہید ہو جائے گا۔
 ۱۱۱ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَوةُ الرَّحْمَةِ: لَا يَسْبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى يَسْعَ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ
 عَلَى حِطَّةِ أَخِيهِ.

(۱۱۱) اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا: اگر تمہارا بھائی کوئی چیز خرید رہا ہو تو تم اس کو نہ خریدو، اور اگر تمہارا بھائی مٹکنی کر رہا ہو تو تم (ای عورت سے) مٹکنی نہ کرو (بلکہ انتظار کرو کہ وہ فارغ ہو جائے پھر جو چاہے کرو)

۱۱۲ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَوةُ الرَّحْمَةِ: الْكَافِرُ يَا كُلُّ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ
 يَا كُلُّ فِي مَعْنَى وَاحِدٍ.

(۱۱۲) اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا: کافر سات آنکوں سے کھاتا ہے اور مومن ایک آنت سے کھاتا ہے ^(۱)۔

۱۱۳ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَوةُ الرَّحْمَةِ: (۸/۸) إِنَّمَا سُمِّيَ حِضْرُهُ لِأَنَّهُ جَلَسَ عَلَى
 فَرْوَةِ بَيْضَاءَ فَإِذَا هِيَ تَهَنَّتْ تَحْتَهُ خَضْرَاءَ.

(۱۱۳) اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا: (۸/۸) خضر (علیہ السلام کا نام خضر یعنی بزر) اس وجہ سے رکھا گیا کہ وہ ایک مرتبہ سفید ریت پر بیٹھے تو وہ ان کے یونچے سر برز ہو گئی۔

۱۱۴ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَوةُ الرَّحْمَةِ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى الْمُسْبِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 [يَعْنِي] إِذْارَةً.

(۱۱۴) اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مُسْبِل کی طرف (نظر

(۱) مسلمان کی شان یہ ہے کہ کھاتے وقت دوسرے ساتھیوں کا لحاظ رکھے۔

(۱۱۳) بخاری ج ۳ کتاب بدء الخلق، حدثنا محمد بن سعید الاصبهانی اخبرنا ابن مبارک عن معمر عن همام بن منبه عن ابی هريرة عن النبی علیہ السلام قال

رہے کہ کیا کہہ رہا ہے تو اس کو چاہئے کہ سو جائے۔

۱۱۷ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَوةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامٌ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: لَا يَقُلُّ إِنْ آدَمَ: يَا حَيَّةَ الدَّهْرِ، فَإِنَّمَا أَنَا الدَّهْرُ، أَرْسَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، إِذَا شِئْتُ قَبْضَتُهُمَا.

(۱۱۸) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے کہا: آدم کے کسی بیٹے (انسان کو) "زمانہ کا براہو" نہ کہنا چاہئے کیونکہ میں ہی زمانہ (دھر) ہوں، میں ہی رات اور دن کو پے در پے بھیجا ہوں اور جب چاہوں ان کو روک لوں۔

۱۱۸ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَوةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامٌ: نَعَمًا لِلْمُلُوكِ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ بِحُسْنِ طَاعَةِ رَبِّهِ وَطَاعَةِ سَيِّدِهِ نِعْمَالَهُ نِعْمَالَهُ.

(۱۱۸) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: غلام کے لئے یہ بات کیا ہی اچھی ہے کہ اللہ اس کو اپنے پروردگار اور اپنے آقا (ہردوں) کی اچھی اطاعت کرتے ہوئے وفات دے یہ اس کے لئے بڑا ہی اچھا ہے، یہ اس کیلئے بڑا ہی اچھا ہے۔

۱۱۹ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَوةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامٌ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَا يَصْرُقُ أَمَامَةً، فَإِنَّهُ يُنَاجِيَ اللَّهَ مَا دَامَ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا، وَلَكِنْ لَيَصْرُقُ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ فَيَدْفَعُهُ.

(۱۱۹) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہو تو اس کو چاہئے کہ اپنے سامنے نہ تھوکے، کیونکہ وہ جب تک اپنی نماز کی جگہ

(۱۱۸) مسلم ج ۲ ص ۵۳ کتاب الایمان حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمر عن همام بن منبه قال: ما حدثنا ابوهریرة عن رسول اللہ ﷺ ذكر أحاديث منها وقال رسول اللہ ﷺ

(۱۱۹) بخاری ج ۲ کتاب الصلوة، حدثنا اسحاق بن نصر قال انخبرنا عبد الرزاق عن معاشر عن همام سمع اباهریرة عن النبي ﷺ قال

پر ہوتا ہے اللہ سے مناجات کرتا رہتا ہے اور سیدھی طرف بھی نہ تھوکے کیونکہ اس کی سیدھی جانب ایک فرشتہ ہوتا ہے لیکن اپنے بائیں جانب یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوک کر اس کو دفن کر دے۔^(۱)

۱۲۰ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَوةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامٌ: إِذَا قُلْتَ لِلنَّاسِ: أَنْصِتُوا وَهُمْ يَتَكَلَّمُونَ فَقَدْ لَغُوتَ عَلَى نَفْسِكَ -يَعْنِي يَوْمَ الْجَمْعَةِ-.

(۱۲۰) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم نے لوگوں سے کہا کہ "خاموش رہو" اور وہ باقی کرتے ہی رہیں یعنی جمود کے دن تو تم نے اپنے نفس پر ایک لغو کام کیا۔^(۲)

۱۲۱ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَوةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامٌ: أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ (۸/۸) فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَأَيُّكُمْ تَرَكَ دِيَنَأَوْ ضَيْعَةً فَادْعُونِي فَأَنَّى وَلِيَهُ وَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ مَالًا، فَلَيُؤْتُرُ بِمَا لَهُ عَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ.

(۱۲۱) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بہ نسبت اور لوگوں کے میں مومنوں (۸/۸) کے حق میں اللہ کے نوشتہ احکام میں زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں چنانچہ تم میں سے اگر کوئی شخص قرض چھوڑ کر مرے یا اس طرح فوت ہو کہ کفن دفن کو بھی پیسے نہ ہوں تو مجھے بلاو۔ میں اس کا ولی ہوں، اور اگر تم میں سے کوئی شخص مال چھوڑے تو جو کوئی اس کا قربت دار ہو اسے اس مال پر ترجیح حاصل ہوگی۔ (ترکہ حق حکومت ضبط نہ ہوگا)

۱۲۲ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَوةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامٌ: لَا يَقُلُّ أَحَدُكُمْ: أَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ أَوْ

(۱) یہ جگل صحرائیں نماز پڑھتے وقت بے تحاشا بغیر مدنیں آجائے کا ذکر ہے۔

(۲) خطبہ سنتے وقت دوسرے کو یہ تک نہیں کہنا چاہئے کہ چپ رہو، چہ جائے کہ خوب باش کرو۔

ارِحْمَنِی إِنْ شِئْتَ أَوْ ارْزُقْنِی إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمَ الْمَسَأَةَ إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لَا مُكَرَّهَ لَهُ.

(۱۲۲) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اس طرح نہ کہے: "اگر تو چاہے تو میری مغفرت کر" یا "اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر" یا "اگر تو چاہے تو مجھے رزق دے۔" اس کو چاہئے کہ پورے عزم کے ساتھ سوال کرے، بے شک وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔

۱۲۳ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَرَبَنِي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِلْقَوْمَ: لَا يَتَعْنِي رَجُلٌ قَدْ كَانَ مِلْكًا بُضُّعَ امْرَاةٍ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِي بَهَا وَلَمَّا بَنَى، وَلَا آخَرَ بَنَى بَنَاءً لَهُ وَلَمَّا يَرْفَعَ سَقْفَهَا، وَلَا آخَرَ قَدَاشَتِي غَيْرَمَاً أَوْ خَلْفَاتِ وَهُوَ يَتَسْتَرُّ لِوَادِهَا، فَغَرَّا، فَدَنَا الْقُرْيَةُ حِينَ صَلَى الْعَصْرَ أَوْ فَرِيَّا مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: أَنْتَ مَأْمُورَةٌ وَإِنَّ مَأْمُورَ: اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَى شَيْءًا فَاحْجَسْتَ عَلَيْهِ، حَتَّى فَسَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا فَاقْبَلَتِ النَّارُ لِتَأْكِلَهُ، فَأَبَتْ أَنْ تُطْعَمَهُ، فَقَالَ: فِيْكُمْ غَلُولٌ فَلِيَأْيُّنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةِ رَجُلٍ، فَبَايْعُوهُ فَلَصِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيْكُمُ الْغَلُولُ فَلَلِيَأْيُّنِي قَبِيلَتُهُ، فَبَايْعَتْهُ قَبِيلَتُهُ، فَأَصْقَقَ يَدَ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيْكُمُ الْغَلُولُ أَنْتُمْ غَلَّتُمْ، قَالَ: فَأَخْرُجُوكُمْ لَهُ مِثْلَ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنْ

ذَهَبٌ فَوَضَعُوهُ فِي الْمَالِ، وَهُوَ بِالصَّعِيدِ، فَاقْبَلَتِ النَّارُ، فَاقْلَتْ، قَالَ: فَلَمْ تَحْلِ الْغَنَائمُ لِأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا، ذَلِكَ (۹) رَأْيُ اللَّهِ رَأْيٌ ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَطَبَّيْهَا لَنَا.

(۱۲۳) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر نے (ایک مرتبہ) جنگ کی اور اپنی قوم سے کہا: میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ آئے جس نے کسی عورت سے شادی کی ہو اور اس کے ساتھ زفاف کرنا چاہتا ہو اور زفاف نہ کیا ہو اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جو اپنا مکان بنا رہا ہو اور ابھی اس کی حیثیت بلند نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی اور جس نے بکریاں یا اونٹیاں خریدی ہوں اور وہ ان کے پیچے پیدا ہونے کا انتظار کر رہا ہو۔ پھر انہوں نے جنگ کی، پھر جب کہ عصر کی نماز کا وقت ہوا ایسا کے لگ بھگ تو (دشمہ کے) شہر کے پاس پہنچ اور سورج سے کہا: تو بھی مامور ہے اور میں بھی مامور ہوں، یا اللہ! اس کو کچھ دری تک میرے لئے روک دے، اس پر ان کے لئے سورج رک گیا، یہاں تک اللہ نے اس کو فتح دی پھر لوگوں نے جو مال غنیمت حاصل کیا تھا جمع کیا اور اس کو کھانے کیلئے آگ آگے بڑھی لیکن اس کے کھانے سے انکار کر دیا، پیغمبر نے کہا: "تم میں خیانت ہے، اس لئے چاہئے کہ ہر قبیلے سے ایک شخص مجھ سے بیعت کرے" پھر انہوں نے ان سے بیعت کی اور ایک آدمی کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے

(۱۲۴) بخاری ج ۲۱ کتاب النکاح نیز بخاری ج ۱۲ کتاب الجنہاد، حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول اللہ ﷺ مسلم ج ۲ ص ۸۵ کتاب الجنہاد والسیر، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا ابو هريرة عن رسول اللہ ﷺ فذكر احاديث منها وقال رسول اللہ ﷺ

(۱۲۲) بخاری ج ۳۰ کتاب التوحید، حدثنا یحيیٰ حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه ابہریرہ عن النبي ﷺ قال.....

۱۲۳ - "حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا ابو هريرة عن رسول اللہ ﷺ فذكر احاديث منها وقال: غازانی "الحادی" في مسلم "الحادی" "قدنا القریۃ" في مسلم ج ۲ ص ۸۵ "قدنا من القریۃ" ، "فأکلت" فيه ايضاً "فأکلت".

چھٹ گیا، اس پر انہوں نے کہا: ”تم میں خیانت ہے اس لئے چاہئے کہ اس کا قبیلہ مجھ سے بیعت کرے۔“ پھر اس کے پورے قبیلے نے ان سے بیعت کی تو دو تین آدمیوں کا باتحہ ان کے ہاتھ سے چھٹ گیا، اس پر انہوں نے کہا: ”تم میں خیانت ہے، تم نے خیانت کی ہے۔“ کہا: پھر ان کے پاس گائے کے سر کے جیسی کوئی سنہری چیز نکال کر لائے، اس کو بھی ماں غیمت میں رکھ دیا گیا اور وہ پاک مٹی پر تھا، تو آگ آگے بڑھی اور کھالی، فرمایا: غیمت کامال ہم سے پہلے کسی پر حلال نہ تھا، یہ (۱/۹) اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے ہمارے ضعف اور ہماری عاجزی کو دیکھا، اس لئے اس نے اس کو ہمارے لئے پاک بنادیا۔

۱۲۴ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ أَنِّي نَزَعَ عَلَى حَوْضِ أَسْقَى النَّاسِ، فَأَتَانِي أَبُو بَكْرٌ، فَأَخَذَ الدَّلَوَ مِنْ يَدِي لَيْرِيْحَنِي، فَنَزَعَ دَلَوِينِ، وَفِي نَزَعِهِ ضَعْفٌ، وَاللَّهُ يَعْفُرُ لَهُ، قَالَ: فَأَتَانِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ فَأَخَذَهَا مِنْهُ، فَلَمْ يَنْزِعْ رَجُلٌ نَزَعَهُ حَتَّى وَلَى النَّاسُ وَالْحَوْضُ يَنْفَجِرُ.

(۱۲۳) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک بار جب کہ میں سورہ اتحامیں نے (خواب میں) دیکھا کہ حوض پر لوگوں کو پانی پلانے کے لئے ڈول سے پانی کھینچ رہا ہو۔ پھر میرے پاس ابو بکر آئے اور انہوں نے میرے ہاتھ سے ڈول لے لیا تاکہ مجھے راحت پہنچائیں۔ پھر انہوں نے دو ڈول نکالے اور ان کے نکلنے میں ضعف تھا، اللہ ان کو معاف کرے، فرمایا: پھر میرے پاس عمر بن الخطاب آئے

۱۲۴ - ”رَأَيْتُ“ فی الْبَحَارِیِّ ج ۱۴ کتاب المناقب و فی مسلم ج ۲ ص ۲۷۵ ”أَرَیْتُ“، ”لَيْرِيْحَنِي“ فی مسلم ج ۲ ص ۲۷۵ ”لَيْرِيْحَنِي“.

(۱۲۵) بخاری ج ۲۸ کتاب التعبیر، حدثنا اسحاق بن ابراهیم، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام انه سمع ابا هریرۃ يقول قال رسول اللہ ﷺ.....

اور ڈول کو ان سے لے لیا، پھر کوئی شخص ان کے جیسا کھینچ نہ سکا، یہاں تک کہ سب لوگ (سیراب ہو کر) واپس ہو گئے اور حوض بہتا ہی رہا۔

۱۲۵ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا حَوْرَ كِرْمَانَ قَوْمًا مِنَ الْأَعَاجِمِ، حُمَرَ الْرُّجُوْهُ، فُطْسَ الْأَنُوْفُ، صِفَارَ الْأَعْيَنِ، كَانَ وُجُوهُهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ.

(۱۲۵) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت اس وقت تک نہ آئے گی، یہاں تک کہ تم جور کرمان سے لڑیں، وہ ایک عجی (غیر عرب) قوم ہے، سرخ چہرے، چیختنک اور چھوٹی آنکھوں والی، گویا کہ ان کے چہرے پئی ہوئی ڈھال ہیں۔

۱۲۶ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْخَيْلَاءُ وَالْفَخْرُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْإِبْلِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنِيمِ.

(۱۲۶) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خیروں تکبیر گھوڑے اور اونٹ والوں میں ہوتا ہے اور بردباری بکری والوں میں۔

۱۲۷ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا يَعَالِمُهُمْ

۱۲۵ - ”حور کرمان“ فی المشکاة ص ۴۶ کتاب الفتن عن ابی هریرۃ ”حوزا و کرمان من الأعاجم“.

(۱۲۵) بخاری ج ۱۴ کتاب المناقب، حدثی یحیی حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابی هریرۃ ان النبی ﷺ قال:

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا حَوْرًا وَسِكِّيْمَانَ مِنَ الْأَعَاجِمِ حُمَرَ الْرُّجُوْهُ، فُطْسَ الْأَنُوْفُ، صِفَارَ الْأَعْيَنِ وَجُوْهَرَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ بِعَالِمِهِ الْمُتَعَرِّفُ، تَابِعَةُ غَيْرِهِ عَنْ عَيْنِ الرَّوَّاقِ۔

(۱۲۶) بخاری ج ۲۸ کتاب المناقب میں امام زہری نے ابو سلمہ بن عبدالرحمن سے اور انہوں نے ابو ہریرہ کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے، البتر آخری الفاظ یہ ہیں ”والاپسان بیان والحكمة یمانیۃ“ (ایمان بیان والاوں میں ہے اور حکمت (حدیث) بیان والاوں میں ہے)

بُو) لگانے سے منع کیا۔

۱۳۱ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْبَلَاغَةُ: لَا يَرَأُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ تَحْبِسُهُ، وَلَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَّا اِنْتِظَارُهَا.

(۱۳۱) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی اس وقت تک نماز ہی میں رہتا ہے جب تک کہ نماز اس کوروکے رکھے^(۱) اور نماز کے انتظار کے سوا نے اس کو اور کوئی چیز جانے سے نہیں روکتی۔

۱۳۲ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْبَلَاغَةُ: أَيْدُ الْعَلِيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلِيِّ، وَابْدًا بِمَنْ تَعُولُ.

(۱۳۲) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے^(۲) اور (خیرات) اپنے قربی رشتہ داروں سے شروع کرو۔

۱۳۳ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْبَلَاغَةُ: أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ (۹/۹) فِي الْأُولَى وَالآخِرَةِ، قَالُوا: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِّنْ عَلَاتٍ، وَأَمْهَاتُهُمْ شَتَّى، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ فَلَيْسَ بِيَنَّا لَيْ.

(۱۳۳) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں اور لوگوں کے مقابلہ میں عیسیٰ بن مریم

عن ہمام عن ابی هریرہ عن النبی ﷺ بخاری ج ۲۴ کتاب الباس حدیثی یعنی حدیثنا عبد الرزاق

مسلم ج ۲ ص ۲۲۰ کتاب السلام، حدیثنا محمد بن رافع قال حدیثنا عبد الرزاق قال اخیرنا معمر عن ہمام بن منبہ قال: هذا ما حدثنا ابو هریرہ عن رسول اللہ ﷺ فذکر احادیث منها و قال رسول اللہ ﷺ

(۱) نماز کے انتظار میں مسجد میں رہنا بھی عبادت ہے۔

(۲) یعنی خیرات کرنے والا، خیرات لینے والے سے بہتر ہے۔

(۱۳۳) مسلم ج ۲ ص ۲۶۵ کتاب الفضائل باب فضائل عبیسی علیہ السلام، حدیثنا

الشَّعْرُ.

(۱۲۷) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جیسا تک کہ تم ایک ایسی قوم سے لڑو جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے۔

۱۲۸ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْبَلَاغَةُ: النَّاسُ تَبْعَدُ لِقْرَيْشَ فِي هَذِهِ الشَّانَ - أَرَاهُ يَعْنِي الْإِمَارَةَ - مُسْلِمُهُمْ تَبْعَدُ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبْعَدُ لِكَافِرِهِمْ.

(۱۲۸) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس معاملہ میں ---- یعنی میں سمجھتا ہوں امارت کے بارے میں ---- لوگ قریش کے تابع ہیں، ان میں کے مسلمان ان کے مسلمانوں کے تابع، اور ان میں کے کافران میں کے کافروں کے تابع ہیں۔

۱۲۹ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْبَلَاغَةُ: خَيْرُ نِسَاءِ رَكِينِ الْإِبْلِ نِسَاءُ قُرَيْشٍ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدِهِ فِي صِفَرَةٍ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ.

(۱۲۹) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بہترین عورتیں جو کبھی اونٹ پر سوار ہوئیں ہیں وہ قریش کی عورتیں ہیں: اپنے بچوں پر ان کے بچپن میں بڑی مہربان رہتی ہیں، اور اپنے شوہر کے مال کی بڑی حفاظت کرتی ہیں۔

۱۳۰ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْبَلَاغَةُ: الْعَيْنُ حَقٌّ وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ.

(۱۳۰) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نظر لگانا حق بات ہے، اور آپ نے کچھے (بچھا

۱۲۸ - فی مسلم ج ۲ ص ۱۱۹ "عن ہمام بن منبہ قال: هذا ما حدثنا ابو هریرہ عن رسول اللہ ﷺ فذکر احادیث منها "أَرَاهُ يَعْنِي الْإِمَارَةَ" ساقط من مسلم.

(۱۲۸) مسلم ج ۲ ص ۱۱۹، کتاب الامارة، حدیثنا محمد بن رافع قال حدیثنا عبد الرزاق قال حدیثنا معمر عن ہمام بن منبہ قال: هذا ما حدثنا ابو هریرہ عن رسول اللہ ﷺ فذکر احادیث منها و قال رسول اللہ ﷺ

(۱۳۰) بخاری ج ۱۹ کتاب الطبل، حدیثنا اسحاق بن نصر حدیثنا عبد الرزاق عن معمر

(۱۶۰) کے ساتھ دنیا اور آخرت میں اولیٰ ہوں، لوگوں نے کہا: کس طرح؟
یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: پیغمبر علیٰ بھائی ہیں، اور ان کی مائیں علیحدہ ہیں^(۱)
اور ان کا دین ایک ہے، اور ہم دونوں کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔

۱۳۴ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَيْسَ أَحَدُ مِنْكُمْ يَمْنَجِيْهِ عَمَلَهُ، وَلَكِنْ
سَدَّدُوا وَقَارَبُوا، قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ
يَتَعَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَفَضْلٍ.

(۱۳۵) اور رسول اللہ علیٰ بھائی کوئی شخص اپنے عمل کے ذریعہ نجات نہیں
پائے گا۔ لیکن (عمل کو) درست کرو اور میانہ روی اختیار کرو، لوگوں نے کہا: یا
رسول اللہ! کیا آپ بھی نہیں؟ فرمایا: میں بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ
تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانک لے۔

۱۳۶ - وَقَالَ وَنَّهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ يَعْتَيْنِ وَلِبِسْتَيْنِ: أَنْ يَحْتَبِي
أَحَدُكُمْ فِي الشُّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فِرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَأَنْ يَشْتَمِلَ فِي
إِزَارَهِ إِذَا مَاصَلَى إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ بَيْنَ طَرْفَيْهِ عَلَى عَاتِقَهُ وَنَّهَى رَسُولُ
اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَسِّ وَالْلَّقَاءِ وَالْجُشُونِ.

(۱۳۶) اور کہا: اور رسول اللہ علیٰ بھائی نے وہ قسم کی تجارت اور وہ طرح کے لباس سے
منع فرمایا (چنانچہ لباس کی حد تک) تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے کو اس
طرح نہ لپٹ لے کہ اس کی شرم گاہ پر کوئی کپڑا نہ ہو، اور یہ کہ جب نماز پڑھے
تو اپنی لگنی کو کندھوں پر ڈال لے مگر یہ کہ اس کے دونوں کناروں کو مخالف

(۱) ”یہ دونوں شخص اسود عنی اور مسیلمہ کذاب تھے“ اسود عنی نے صنعت میں، اور مسیلمہ نے
یمامہ میں ثبوت کا دعویٰ کیا تھا۔

۱۳۶ - ”عائفة“ فی المشکاة ص ۲۴۷ ”عائفة“.

ان دونوں کو پھونک دوں، پھر میں نے ان دونوں کو پھونک دیا اور وہ دونوں چلے
گئے، میں نے ان دونوں سے دو جھوٹوں کی تعبیری جو میرے دونوں طرف ہیں
اور میں ان کے درمیان میں ہوں: صنعاً والَا اور بِيَامِهِ والَا۔^(۱)

۱۳۵ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَيْسَ أَحَدُ مِنْكُمْ يَمْنَجِيْهِ عَمَلَهُ، وَلَكِنْ
سَدَّدُوا وَقَارَبُوا، قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ
يَتَعَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَفَضْلٍ.

۱۳۴ - ”ایت من خزان“ فی البخاری ج ۲۸ کتاب التعبیر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا ابو
هريرة عن رسول اللہ علیٰ بھائی ذکر احادیث منها و قال رسول اللہ علیٰ بھائی ”ایت من خزان“^(۱)
(۱) اور نبیاء کے ما اور باپ دونوں جدا ہیں، حضرت علی کے باپ نہ ہونے سے صرف ماں
جد ہے۔

۱۳۵ - ”ایت من خزان“ فی البخاری عن رسول اللہ علیٰ بھائی ”ایت من خزان“^(۱)
(۱) بخاری ج ۱۷ کتاب المغازی فیز بخاری ج ۲۸ کتاب التعبیر، حدثی اسحاق
بن ابراهیم الجبلی حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معاشر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به ابو هريرة
عن رسول اللہ علیٰ بھائی^(۱)

مسلم ج ۲ ص ۲۴۴ کتاب الرویاء حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال
حدثنا معاشر عن همام بن منبه: قال هذا ما حدثنا ابو هريرة عن رسول اللہ علیٰ بھائی ذکر احادیث
منها و قال رسول اللہ علیٰ بھائی^(۱)

ستوں سے اپنے کندھے پر ڈال لے^(۱) اور رسول اللہ ﷺ نے چھو کر یا
کنکری ڈال کر خریدنے^(۲) اور جمش^(۳) سے منع فرمایا۔
۱۳۷ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْعَجْمَاءُ جُرْحَهَا جَبَارٌ وَالْبَشَرُ جَبَارٌ
وَالْمَعْدُنُ جَبَارٌ وَالنَّارُ جَبَارٌ، وَفِي الرَّكَازِ الْخَمْسُ.

(۷) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے زبانوں (جانوروں وغیرہ) سے موت واقع
ہو تو وہ معاف ہے^(۴) کنوئیں میں گرنے سے موت واقع ہو تو بھی معاف ہے،
کان میں گرنے سے موت واقع ہو تو بھی معاف ہے، آگ سے موت واقع ہو
تو بھی معاف ہے، البتہ وفیہ یا تو اس کا پنجواں حصہ زکوٰۃ میں دینا چاہئے۔

۱۳۸ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَيُّمَا قَرِيبَةً أَتَيْتُمُوهَا وَأَقْتَمْتُ فِيهَا مُسْهَمَكُمْ.
وَأَطْنَبْهُ قَالَ: فَهِيَ لَكُمْ - أَوْ نَحْوُهُ مِنَ الْكَلَامِ - وَأَيُّمَا قَرِيبَةً غَصَّتِ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ فَإِنَّ خَمْسَهَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ.

(۱) باد کندھوں پر ڈالنے سے رکوع ہمود کے وقت وہ گرپنے لگتا ہے اور نمازی ان کو بار بار
سنچاتا ہے جو نماز سے توجہ منتشر کرنے کا باعث ہے، البتہ کندھوں پر اس طرح ڈال لیں کہ وہ پھر بلتے
گرتے نہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

(۲) یہ زمانہ جامیت کا طریقہ تھا کہ مول پسند آئے تو زبان سے قبولیت ظاہر کرنے کی جگہ چیز کو
پھوٹتے یا اس پر کنکری مارتے تھے۔

(۳) جمش کا نام کرہا اور حدیث نمبر (۶) میں بھی ہے۔ یہ گاہک کو دھوکہ دینے کی صورت تھی کہ
تاجر کا ایک ساتھی جھوٹ موث بڑی قیمت پر مال خریدتا / دوسرے لوگ سمجھتے کہ واقعی اس کی اتنی ہی قیمت
ہے۔

(۴) زمانہ جامیت میں جانور، کنوئیں وغیرہ کو بھی قاتل قرار دے کر سزا دیتے تھے، جو لا یعنی بات
ہے، حال تک انگلستان میں بھی درخت، جہاز وغیرہ کو اسی طرح سزا دی جاتی تھی۔

(۱۳۸) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم کسی شہر میں جاؤ اور اس میں اپنے مقدر
کے مطابق اقامت کرو۔۔۔ میرا خیال ہے کہ پھر آپ نے فرمایا۔۔۔ تو وہ
تمہارے لئے ہے۔۔۔ یا ایسا ہی کوئی اور کلام۔۔۔ اور جو شہر اللہ اور اس کے
رسول کی نافرمانی کرے تو (فتح ہونے پر) اس کا خس (پانچواں حصہ) اللہ اور
اس کے رسول کے لئے ہے، پھر وہ (خس بھی) تمہارے ہی لئے ہے (یعنی
سرکاری حصہ بھی مقاد عاملہ کے لئے خرچ ہوتا ہے)

☆ آخر الصَّيْحَةِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ خَلْقِهِ
الْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَاصْحَابِهِ
الْمُنْتَجِيْنَ وَكَرَمُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اس
جز کا لکھن والا، اس کا مالک، اللہ کی رحمت اور
عنو کا محتاج عبد الرحیم بن حمدان بن
برکات ہے جو اللہ کی تعریف کرتا ہے۔
(مخطوطہ دمشق کا آخر)
(آخر مخطوطۃ دمشق)

(۱۳۸) مسلم ج ۲ ص ۸۹ کتاب الجهاد والسبیر، حدثنا احمد بن حنبل و محمد بن
رافع قالاً حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا ابو هريرة عن
محمد رسول الله ﷺ فذكر أحاديث منها وقال رسول ﷺ
(۱۳۸) وبها مش المشقیہ (بلغ المقابلة).

☆ آخِرُ الصَّحِيفَةِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
تَسْلِيمًا، فَرَغَ مِنْهَا كِتَابَةُ الْفَقِيرِ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ
عَبْدِالْعَزِيزِ الْحَنْفِيِّ الْجِيَنْبِيِّ الْأَصْلِ
الْدَّمْشَقِيِّ الدَّارِ فِي نَهَارِ الْاثْنَيْنِ سَابِعَ
عَشَرَ رَبِيعَ الْأَوَّلِ سَنَةِ مِائَةِ وَالْأَفْ
وَعَلَقَهَا لِنَفْسِهِ وَلَمْنَ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خَطِّ الْعَالَمَةِ إِسْمَاعِيلِ
بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَمَاعَةِ وَتَارِيخِ كِتَابِهِ
لَهَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ ۱۶ رَبِيعُ الْأَوَّلِ سَنَة
۸۵۶ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى رَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ
آمِينَ، (آخِرُ مَخْطُوطَةٍ بَرْلِينَ)
(مخطوطہ برلین کا آخر)

اختلاف الروايات

- الرموز : "ب" يدل على مخطوطة برلين لصحيفة همام بن منبہ، "د" على مخطوطة دمشق، "ح" على مسنده ابن حبیل.
والرقم هو رقم الحديث في الصحيفة كا نشرناها.
١. ح : فرض اللہ علیہم، ب، ح، او تینا من بعدهم.
 ٢. ح : ابو القاسم صلعم . اکملها واجملها. فیتم بناؤک . محمدالنبی ﷺ فکنت انا.
 ٣. ب، ح : انفق اشیاء .
 ٤. ب : یقہمن فیها فذاک، ح: فتقتحم فیها قال : فذلكم، ب ح : "هلم عن النار" مرہ واحدہ، ح : فتغلبو نی تفتحون.
 ٥. ح : "ایا کم والظن" مرہ واحدہ. و كذلك کلمہ "ولا تناجشو" حذفت عنده، ح : عبید اللہ.
 ٦. ح: مسلم وهو يسأل.
 ٧. ح : لی رسول اللہ . وقال یجتمعون . أعلم کیف . فقالوا .
 ٨. ح : کلمہ "مالم یحدث" بعد "صلی فیه".
 ٩. ح : کلمہ "آمین" الثانية فی ب فقط، ح : فیوافق.
 ١٠. ح : وقال : بينما . قال له . ويلك اركبها فقال : بدنہ، ب ، ح : يا رسول اللہ! . قال: وفي آخر الحديث کلمہ "ويلك اركبها"

٣٩. ح : لم اكن قدرته له ولكنه يلفته به قدرته له يستخرج به من البخل يؤتني. آتاني عليه.
٤١. ح : هو قال عيسى : ..
٤٢. ح : والله ما أؤتكم.
٤٣. ح : جعل الامام . وإذا كبر . وإذا سجد .
٤٥. ح : وآخر جتهم . اعطاك الله علم كل شئ واصطفاك . برسالاته كان قد كتب . فحاج .
٤٦. ح : خَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ . اغْنَيْكَ عَمًا .
٤٧. ح : خففت على داود عليه السلام القراءة . بذاته فسرج وكان .
٤٩. ح : ليس لم الصغير .
٥٠. ح : عصموا مني اموالهم . على الله عزوجل .
٥١. ح : الناس وسفلتهم وعرتهم فقال اللہ عزوجل للجنة : إنما انت رحمة . يضع الله عزوجل رجله فتقول : فقط أى حسيبي . فان الله ينشي .
٥٣. ح : عليه وسلم إذا تحدث . حسنة ما لم يجعلها . يفعل سيئة فأنا أغفرها ما لم يجعلها .
٥٤. ح : عليه وسلم لقيد . خير مما .
٥٥. ح : الجنة أن يقول تمن ويتمن فيقول له ، ب : له إن لك .
٥٧. لاندفعت في شعبهم .
٥٨. ح : خلق الله عزوجل . قال له : اذهب . واستمع ما يحبونك .

مرة واحدة عند ح .

١٢. ح : جزء واحد من . جهنم قالوا : كانت لكافية .
١٣. هذا الحديث بعد رقم ١٦ عند ح .
١٤. ب : تعلمون ما لبكيتم ، ح : لضحكتم قليلاً ولبكيركم كثيراً .
١٥. ح : شتمه . كلمة "إنى صائم" مرة واحدة في ب .
١٧. ح : امر بالنار ، د : فلدغته . فأوحى اليه .
١٨. د : محمد في يده ، ب : قعدت سرية ، د : تغروا .
٢٢. ح : وفيض . بكثرة الهرج أيمما هو؟ يا رسول الله!
٢٣. ب ، ح : يكون بينهما .
٢٥. ب : آمنوا جميعاً .
٢٦. ح : قوله ضراط . حتى يخطر . نفسه فيقول ، ب : حتى قضى الشبيب .
٢٧. ح : حلق السموات . ما في يمينه .
٢٨. ح : يوم لأن يراني . من أهله وماليه ومثلهم معهم .
٢٩. ح : هلك كسرى ثم لا يكون . لنقتسمن كمزدهما . سبيل الله عزوجل . وحذف ح كلمة "وسمى الحدب خدعة" .
٣١. ح : فانما اهلك . بأمر فاتحه ، ب : بأمر فأتوا به .
٣٤. ب ، ح : الى من فضل ، ح : منه فيمن .
٣٥. ح : طهر اماء . أن يغسله .
٣٦. ح : يصلى الناس ثم يحرق .

٧٨. ح : فقال الذى اشتري. وقال الذى باع الأرض. قال: فتحاكمـاـ . قال احدهماـ . جارية قالـ . على انفسهما منهـ ، بـ حـ : انا اشتريـتـ منكـ الأرضـ ، دـ : اشتراـ .
 ٧٩. بـ : ضلتـ ثمـ وجدـهاـ .
 ٨٠. حـ : حـذـفـ كـلـمـةـ "اوـ قالـ : أـتـيـتـهـ".
 ٨١. حـ : الماءـ ثمـ لـيـنـشـ .
 ٨٢. حـ : أنـ اـحـدـاـ عـنـدـىـ . أـجـدـ منـ يـقـبـلـهـ مـنـ لـيـسـ شـيـئـاـ .
 ٨٣. حـ : عنـكـمـ عـنـاءـ حـرـهـ . فـلـقـمـوهـ فـيـ يـدـهـ . وـحـذـفـ حـ كـلـمـةـ "أـولـيـنـاـ وـلـهـ فـيـ يـدـهـ".
 ٨٤. حـ : ربـكـ أـطـعـمـ . وـلـيـقـلـ فـتـاتـىـ ، غـلامـىـ : بـ حـ : سـيـدىـ وـمـوـلـاـىـ .
 ٨٥. حـ : فـيهـاـوـلاـ يـغـلـونـ وـلـاـ يـتـمـخـطـونـ . أـمـاشـاطـهـمـ الـذـهـبـ . مـجـامـرـهـمـ
 الأـلـوـةـ . مـخـ سـاقـيـهـمـاـ .
 ٨٦. حـ : لـنـ تـخـلـفـنـيةـ . لـهـ صـلـاـةـ .
 ٨٧. حـ : لـمـنـ قـبـلـنـاـ .
 ٨٨. حـ : دـخـلـتـ النـارـ اـمـرـأـةـ . لـهـ رـبـطـهـاـ . تـرـمـمـ منـ خـشـاشـ .
 ٨٩. حـ : وـهـوـ مـؤـمـنـ حـينـ يـسـرـقـ . وـهـوـ مـؤـمـنـ حـينـ يـزـنـيـ وـلـاـ يـشـرـبـ
 الشـارـبـ وـهـوـ مـؤـمـنـ حـينـ يـشـرـبـ يـعـنىـ الـخـمـرـ . وـلـاـ يـتـهـبـ مـؤـمـنـ
 فـإـيـاـكـمـ .
 ٩٢. حـ : يـكـلمـهـ الـمـسـلـمـ فـيـ سـبـيلـ اللهـ ثـمـ يـكـونـ . تـنـفـجـرـ دـمـاـ . الـمـسـكـ
 قـالـ: أـىـ يـعـنىـ الـعـرـفـ الـرـبـحـ .

- فـقاـلـواـ: السـلـامـ عـلـيـكـ وـرـحـمـةـ اللهـ فـزـادـوـهـ رـحـمـةـ اللهـ . صـورـةـ آـدـمـ
 وـطـولـهـ . يـنـقـصـ الـخـلـقـ ، بـ: حـذـفـ كـلـمـةـ "فـرـادـوـ وـرـحـمـةـ اللهـ".
 ٥٩. حـ : مـوسـىـ عـلـيـهـ السـلـامـ . عـيـنـهـ وـقـالـ . فـقـلـ الـحـيـاـةـ . فـمـاتـوارـتـ بـيـدـكـ
 جـنـبـ الـطـرـيقـ ، بـ حـ : رـدـ اللهـ عـيـنـهـ .
 ٦٠. حـ : مـوسـىـ عـلـيـهـ السـلـامـ يـغـتـسـلـ . الـحـجـرـ بـثـوبـ مـوسـىـ . مـوسـىـ بـاثـرـ.
 مـوسـىـ وـقـالـواـ: اـنـ بـالـحـجـرـ نـدـ بـاسـتـةـ .
 ٦١. حـ : عـنـ كـثـرـةـ .
 ٦٢. حـ : إـذـاـ اـتـيـعـ أـحـدـكـمـ .
 ٦٤. حـ : خـسـفـتـ بـهـ . حـتـىـ يـوـمـ الـقـيـامـةـ .
 ٦٦. حـ : مـاـ مـوـلـودـ يـوـلدـ إـلـاـ عـلـىـ . تـنـجـونـ الـأـلـاءـ بـلـ فـهـلـ .
 ٦٧. حـ : الـذـنـبـ قـالـ .
 ٦٨. حـ: قـالـواـ: إـنـكـ ، بـ ، حـ : كـلـمـةـ "إـيـاـكـمـ وـالـوـصـالـ" مـرـةـ وـاحـدـةـ . لـسـتـ
 فـيـ ذـاـكـمـ .
 ٧٠. حـ : تـطـلـعـ الـشـمـسـ . الرـجـلـ عـلـىـ دـابـتـهـ تـحـمـلـهـ . لـهـ مـتـاعـهـ عـلـيـهـ صـدـقـةـ
 قـالـ: وـالـكـلـمـةـ . قـالـ: كـلـ خـطـوـةـ يـمـشـيـهـاـ .
 ٧١. حـ : حقـهاـ بـسـطـهـ عـلـيـهـ .
 ٧٢. حـ : قـالـ: وـيـفـرـهـ ، بـ : يـفـرـ مـنـهـ وـيـطـلـبـهـ .
 ٧٣. حـ : لـاـ تـبـلـ . تـغـتـسـلـ مـنـهـ .
 ٧٤. بـ: الـمـسـكـينـ الـذـيـ يـطـوـفـ .
 ٧٦. حـ : لـاـ يـتـمـنـ أـحـدـكـمـ . اـنـقـطـعـ عـمـلـهـ وـاـنـهـ لـاـ يـزـيدـ ، دـ : يـدـعـاـبـهـ .



١١٢. ح : زاد في آخر الحديث بعد كلمة "واحد" ما يأتي: "حدثنا عبدالله قال سمعت أبي (أبي ابن حنبل) يقول: قلت لعبدالرزاق: يا أبا بكر، أفضل يعني هذا الحديث كأنه أعجبه حسن هذا الحديث وجودته. قال: نعم..".

١١٣. ح : لم يسم خضراً إلا أنه جلس. خضراء والفروة الحشيش الأبيض وما يشبهه قال عبدالله: هذا التفسير من عبدالرزاق.

١١٤. ح : حذف كلمة "يعني ازاره" وحذف دلالة "يعني".

١١٥. ح : حبة في شعرة.

١١٦. ح : قال لا يقل. إنى أنا الدهر.

١١٧. ح : للملوك إن يتوفى بحسن عبادة الله وصحابة سيده. كلمة "نعماله" مرة واحدة.

١١٨. ح : من الصلاة. مناج الله.

١١٩. ح : ألغيت على نفسك. وحذف كلمة "يعني يوم الجمعة".

١٢٠. ح : فايكم ماترك. فأنا وليه. فليرث ماله عصبه.

١٢١. ح : وارحمنى. وارزقنى ليعزم.

١٢٢. ح : بهاولم بين ولا أحد قد بنى بنياناً. ولا أحد قد اشتري أولادها. من القربة حين صلاة. إن تطعم فقال. قبيلتك فبأيعته قبيلته قال: فلصح بيده رجلين. فأكلته قال. ذلك لأن الله عزوجل، بـ، حـ: يدر جـل بيـده قال. ثلاثة بيـده قال.

١٢٣. ح : الناس قال: فأتأنـي. يـدى لـيرـفـه حتى نـزع ذـنوـبـاً أو ذـنوـبـينـ وـفـىـ

٩٣. رقمـهـ عندـحـ بـعـدـ ٩٤ـ حـ:ـ اللهـ عـزـوجـلـ.

٩٤. رقمـهـ عندـحـ بـعـدـ ٩٢ـ حـ:ـ تكونـ صـدـقـةـ فـأـلـقـيـهـاـ وـلـاـ آـكـلـهـاـ.

٩٥. حـ:ـ وـالـلـهـ لـأـنـ يـلـجـ.

٩٦. حـ:ـ وـاسـتـحـيـاهـمـاـ فـلـيـسـتـهـمـاـ عـلـيـهـاـ،ـ "ـفـاستـحـيـاهـمـاـ،ـ كـذـاـ بـالـأـصـلـ الدـمـشـقـيـ،ـ لـعـلـهـاـ"ـ فـاستـحـيـاهـاـ"ـ أـيـ فـاستـحـيـاـ الـيـمـيـنـ.

٩٧. حـ:ـ شـاةـ مـصـرـاـةـ إـمـاـ يـرـضـىـ.

٩٨. حـ:ـ الشـيـخـ عـلـىـ حـبـ.

٩٩. حـ:ـ لـاـ يـمـشـيـنـ أـحـدـ كـمـ .ـ لـعـلـ الشـيـطـانـ يـنـزـعـ فـيـ يـدـهـ.

١٠١. حـ:ـ رـسـوـلـ اللـهـ عـلـيـهـ الـحـلـلـةـ فـيـ سـيـلـ.

١٠٢. حـ:ـ كـتـبـ عـلـىـ اـبـنـ آـدـمـ .ـ أـدـرـكـ لـاـ مـحـالـةـ فـالـعـيـنـ.ـ النـظـرـ وـيـصـدـقـهـاـ.

١٠٣. حـ:ـ زـيـنـتـهـ الطـقـ وـالـتـمـنـيـ.ـ يـصـدـقـ مـاـ ثـمـ وـيـكـلـبـ.

١٠٤. حـ:ـ إـذـاـ مـاـ قـامـ أـحـدـ كـمـ.

١٠٥. حـ:ـ الـمـلـاـنـكـةـ رـبـ.

١٠٦. حـ:ـ لـهـ ذـلـكـ وـشـمـنـىـ وـلـمـ يـكـنـ لـهـ ذـلـكـ تـكـذـيـهـ إـيـاـيـ أـنـ يـقـولـ.ـ فـلـنـ يـعـيـدـنـاـ.ـ الصـمـدـ الـذـىـ.

١٠٧. حـ:ـ مـنـ الـحرـ.

١٠٨. حـ:ـ لـاـ يـقـبـلـ اللـهـ صـلـاـةـ.

١٠٩. حـ:ـ تـمـشـونـ عـلـيـكـمـ .ـ فـصـلـوـاـ وـمـاـ فـاتـكـمـ فـاقـضـوـاـ.

١١٠. حـ:ـ قـالـواـ كـيـفـ.

١١١. حـ:ـ لـاـ يـخـطـبـ اـحـدـ كـمـ عـلـىـ.

نزعه ضعف قال : فأقاني ابن الخطاب والله يغفر له فأخذها فلم ينزع

رجل حتى تولى الناس ، ب ، ح : أبو بكر الصديق .

١٢٥. ح : خوز و كرمان ، ب : حمر الوجه فطس الأنف .

١٢٦. رقمه في ح بعد ١٢٧ .

١٢٧. رقمه في ح بعد ١٢٥ . ح : أقواماً نعالهم .

١٢٨. ح : الشأن مسلمهم . (هو حذف كلمة "أراه يعني الامارة")

ب : كافر تع لكافرهم .

١٣١. ح : ما كانت الصلاة وهي تحبسه لا يمنعه إلا انتظارها .

١٣٣. ب ، ح : أنا أولى بعيسى .

١٣٤. ح : إذا أوتيت بخزائن .

١٣٥. ح : ليس واحد بمنجيه .

١٣٦. ح : وقال نهى عن بيعتين . ونهى عن اللمس والتجش .

١٣٧. ح : وقال العجماء . والمعدن جبار وفي الركاز الخمس .

١٣٨. رقمه في ح بعد ١٠٢ و قبل ١٠٣ . ح : فأقمتم فيها فسهمكم

فيها وأيما قرية .

مخطوطہ و مشق اور مخطوطہ بر لین
کی
ساعتیں

سماعات فی مخطوطۃ دمشق

(۱) کتب علی لوح الكتاب ما بیلی (والخط الفاصل یدل علی السطر:
فی الأصل):

أ. ”صحیفہ ہمام بن منبه رحمہ اللہ، معمراً سے روایت کرتے ہیں / ان سے عبد الرزاق روایت کرتے ہیں، ان سے احمد بن یوسف / سلمی روایت کرتے ہیں، ان سے ابو بکر بنقطان روایت کرتے ہیں / ان سے امام ابو عبد اللہ بن مندہ روایت کرتے ہیں، ان کے بیٹے / عبد الوہاب ان سے روایت کرتے ہیں، ان سے شیخ ابوالخیر محمد بن / احمد مقدار روایت کرتے ہیں، ان سے شیخ اجل اور یکتا امام حافظ تاج الدین بھاء الاسلام بدیع الزمان / ابو عبد اللہ محمد بن عبد الرحمن بن محمد مسعودی روایت کرتے ہیں / اللہ ان کو اچھار کئے اور ان تمام سے راضی رہے اور قیامت کے دن تک بے حساب سلامتی بھیجے۔“

کثیراً، إلی یوم الدین“.

ب. وتحته: ”سماع مالکه عبد الرحیم بن حمدان بن برکات وله الحمد والمنة“.

ج. وتحته: ”وقف نجم الدین أبو الحسن بن هلال أتابکه اللہ، / لله على جميع المسلمين بشرط أن لا يعار لأحد منهم إلا قيمة“.

مخطوطۃ دمشق کی سماعاتیں

(۱) کتاب کے سرورق پر لکھا ہے:

(نوٹ: ذیل میں جو خط فاصل ہیں وہ اصل کتاب کی سطحیں ظاہر کرتے ہیں)
الف۔ ”صحیفہ ہمام بن منبه رحمہ اللہ، معمراً سے روایت کرتے ہیں / ان سے عبد الرزاق روایت کرتے ہیں، ان سے احمد بن یوسف / سلمی روایت کرتے ہیں، ان سے ابو بکر بنقطان روایت کرتے ہیں / ان سے امام ابو عبد اللہ بن مندہ روایت کرتے ہیں، ان کے بیٹے / عبد الوہاب ان سے روایت کرتے ہیں، ان سے شیخ ابوالخیر محمد بن / احمد مقدار روایت کرتے ہیں، ان سے شیخ اجل اور یکتا امام حافظ تاج الدین بھاء الاسلام بدیع الزمان / ابو عبد اللہ محمد بن عبد الرحمن بن محمد مسعودی روایت کرتے ہیں / اللہ ان کو اچھار کئے اور ان تمام سے راضی رہے اور قیامت کے دن تک بے حساب سلامتی بھیجے۔“

ب۔ اس عبارت کے نیچے لکھا ہے:

”اس کتاب کے مالک عبد الرزاق بن حمدان بن برکات نے سماعت کی، اللہ ہی کے لئے منت اور تحریف ہے“

ج۔ اور اس کے نیچے یہ لکھا ہے:

”نجم الدین ابوالحسن بن هلال نے، اللہ اس کو ثواب عطا کرے / تمام مسلمانوں پر (اس کتاب کو) اس شرط سے وقف کیا کہ کسی کو عاریت نہ دی جائے

مگر.....اس کی قیمت۔“

(۲) وفي آخر الكتاب، على هامش الورقة ۹/ ب، سماع من أبي القاسم ابن عساكر، صاحب "تاریخ دمشق" وهو في ثلاثة أسطر طوال وخمسة عشر قصار، بخط مغربي فقط الفاء تحت الحرف والقاف لها نقطة واحدة فوق الحرف، وقد كتب اسم "القاسم" و"خالد" بدون ألف. وهذا نصه: "[سم] عها من الحافظ أبي القاسم على بن الحسن بن هبة الله، ومن الشيخ أبي على الحسين بن على بن الحسن بن عمر بن على / البطليوسى، كليهما عن زاهر، عن أبي بكر محمد بن القسم الصفار، وأحمد بن على بن عبد الله بن خلد، وأبي الحسن / على بن احمد بن محمد المامعى (?الغافقي). وزاد الحافظ أبو القاسم : وأنا أيضا أبو الفضل محمد بن إسماعيل بن الفضيل الفضيلي / عن أبي سهل / عبد الرحمن بن محمد / الماليني، كلهم / عن أبي طاهر محمد / بن محمد بن كثیر / عن أبي بكر محمد / بن الحسينقطان / بسنده محمد بن / هبة الله الشيرازى / وابو البرکات / الحسن، وأخوه / أحمد ابنا محمد / بن الحسن وآخرون / في شوال سنة تسع وخمسين وخمسمائة".

(۲) كتاب کے آخر میں، ورق ۹/ ب کے حاشیہ پر، ابو القاسم ابن عساکر، مؤلف "تاریخ دمشق" کی سماعت ہے، اور وہ تین طویل سطروں میں اور پندرہ چھوٹی سطروں میں ہے، یہ مغربی رسم الخط میں لکھا گیا ہے چنانچہ ف کا نقطہ حرفا کے نیچے دیا گیا ہے اور ق کو صرف ایک نقطہ حرفا کے اوپر دیا گیا ہے،

اور "قاسم" اور "خالد" کا نام بغیر الف کے لکھا گیا ہے اور یہ اس کی عبارت ہے:

"(میں نے) اس کو حافظ ابو القسم علی بن الحسن بن هبة الله اور شیخ ابو علی حسین بن علی بن حسن بن علی / بطليوسی سے سنا، ان دونوں نے زاہر سے، انہوں نے ابو بکر محمد بن القسم الصفار، اور احمد بن علی بن عبد الله بن خلد، اور ابو الحسن / علی بن احمد بن محمد المامعی (?الغافقي) سے سنا۔" حافظ ابو القسم نے اس قدر عبارت کا اضافہ کیا ہے:

"اور میں نے بھی ابو الفضل محمد بن اسماعیل بن فضیل فضیلی / سے انہوں نے ابو سهل / عبد الرحمن بن محمد المامعی سے سنا اور ان تمام نے ابو طاہر محمد / بن محمد بن کثیر سے انہوں نے ابو بکر محمد / بن حسینقطان سے سنا / اور ان کی سنند سے محمد بن هبة الله شیرازی / اور ابو البرکات / حسن، اور ان کے بھائی احمد / بن محمد / بن حسن اور دوسرے لوگوں نے سنا / شوال ۵۵۹ھ میں۔"

(۳) وفي أواخر عين الورقة سماع في ثلاثة أسطر وقد انمحى بعض الكلمات. وهذا نصه: "سمعها من أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المسوودي بقراءته جماعة، أبو محمد بن أبي بكر بن احمد البلخي، وذلك يوم الإثنين / السادس من ربيع الآخر، سنة خمس وسبعين وخمسمائة، وابو الفرج نصر(?) والمظفر بن أبي الفنوون العتابي، وابو الطاهر / إسماعيل بن ظافر بن عبد الله العقيلي، ونبأ بن مكارم بن حجاج الحنفي، وابو محمد بن عبد المحسن بن ابراهيم الزجاج".

(۳) اسی ورق کے آخر میں تین سطروں میں ایک اور ساعت ہے اور بعض کلے مث گئے ہیں اور یہ اس کی عبارت ہے:

”ابو عبد اللہ محمد بن عبد الرحمن مسعودی کی قرأت سے جو ایک جماعت کے سامنے ہوئی ابو محمد بن ابی بکر بن احمد بن پنچ نے اس کو سنا، اور یہ (جماعت) دو شبہ کے دن / ربع الآخر ۵۵ھ کو (ہوئی) اور ابو الفرج نصر؟ اور مظفر بن ابی الفتوح عتابی اور ابو طاہر / اسماعیل بن ظافر بن عبد اللہ عقلی، اور نباء بن مکارم بن حجاج حقی، اور ابو محمد بن عبد الحکم بن ابراہیم زجاج (نے بھی اس کو سنا)“

(۴) وفي الورقة. ۱/ ألف سماع يحتوى على الصفحة بتمامها في (۲۴) سطراً، ما نصه: ”بلغ السماع لجميع هذه الصحيفة وهي صحيفۃ همام بن منبہ علی الشیخ الفقیہ الامام العالی تاج الدین بهاء المسلمين بدیع الزمان/ ابی عبد اللہ محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن ابی الحسن المسعودی البندھی الخراسانی احسن اللہ عاقبة أمرہ بقراءته علينا من أصل [.....]/ المنشول منه فی المدرسة الناصرية الصلاحیة خلد اللہ ملک واقفها بشغیر دمیاط حمادہ اللہ تعالیٰ، الأمراء والسداد الفقهاء/ اعماد الدین ابو الطاهر اسماعیل بن الأمیر ظہیر الدین ابو(کذا) اسحق بن الأمیر ناصر الدولة متولی حرب الشغر المذکور يوم شد وا [.....]/الأمير جمال الدین ابو الفضل موسی والفقیہ الأجل الامام العالی فخر الدین أبو بکر بن موصیلی بن مام بن حرب المارابی [.....]/مدرس المدرسة المذکورة بالشغر

والقاضی الأعز ابو محمد عبد السلام بن جماعة بن عثمان التیسی، والمعتمد [...] / عبدالغفاری بن اسماعیل بن ابراهیم، وولده ابو المنتصر عبد العزیز، والفلس(?) ابو علی الحسن بن القاضی جلال الدولة ابی البرکات عب[ید:.....] / بن احمد، وولده ابو الفضل محمد، وأخوه المختص ابو محمد عبد العزیز، والفقیہ ابو محمد عبد الباقی بن جعفر التیسی وأبوا [...] / ناصر بن صمّاص بن سباع المؤذب، وأبوا الحسن علی بن معالی بن علی الدماطی [?] / ابن الدماطی، والفقیہ الخطیب ابو القاسم عبد الرحمن بن [...] / ابن عبد الرحمن الدماطی، وأمیر الملک ابو البرکات عبد الرحمن محمد بن طلحہ الدماطی، والعفیف ابو الفضل محمد بن القاضی [...] / ابو البرکات محمد بن سلیم، وعبد الواحد بن اسماعیل بن ظافر الدماطی، وعبدالله بن ابی الحسن بن علی بن ابی الرجا، وال[قاضی] ابو علی الحسن بن القسم بن عتیق(?) التیسی، وعبد الرحمن بن احمد بن عبد الوهاب الدماطی، وصفی الدین ابو الفتح نص[ربن] / مظفر بن الجلال الرجی، وفتح الدین عمر بن تمیم بن احمد التمیمی، وولدہ محمد وعبد الرحمن، وابو الفتح محمد ابن عبد ا [...] / بن احمد والحلص ابو محمد عبد الله بن القاضی ضیاء الدین ابی القسم هبة اللہ بن احمد، وعبد الوهاب بن محمد بن عبد [...] / وابو الفضل طلحہ بن القاضی النفیس ابی المعالی محمد بن حذیفة الدماطی، والرضی ابو الفضل رضوان بن

سلمه المصری و [.....]/بن عبد الله الناصر، وابو المحرم مکی بن ابی نصر فتح بن رافع المصری، وابو الفضل مرتضیا بن ابی الحسین محمد بن علی ال[.....]/التنیسی المالکی، وعبد الغنی بن عبد الرحمن بن صدقۃ الحلبی الدمیاطی، وابو المنصور وابو الحسین ولدا القاضی [.....]/صالح بن ابی کثیر، وناصر بن سالم بن ناصر، ونصر بن کریم بن علی، ونصرور بن علی بن حجاج الدمیاطیون وابو الحرم مکی [بن.....][بن الحلاوی اسرار المقری]، وابو عمران موسی بن محمد بن محمد الدریندی، وابو الحسن علی بن احمد طاهر المؤذن [ذن]، و ولدہ محمد وعبد الوہاب، وأخو المؤذن المذکور، والفقیہ النجیب ابو منصور فتح بن محمد بن علی بن خلف الشافعی [.....]/ولدہ محمد بن عبد الله، ومسعود مملوک الفقیہ المدرس المقدم ذکرہ. وکاتب هذا السماع مالک الجزء العبد الف[قیر]/عبد الرحیم بن حمدان بن برکات الشافعی حامداً لله تعالیٰ. وذلک فی السادس والعشرين من ذی القعدة سنۃ سب[ع وسبعين] / وخمسائة. وصح لجمیعهم ذلک. والحمد لله وحده(؟). وتحت خط عارض. وتحت الخط : "صح سماعهم منی. وكتبہ محمد بن عبد الرحمن ابن محمد المسعودی والله الحمد".

(۲) اور ورق ۱۰۰ الف پر بھی ایک ساعت لکھی ہے جو پورے صحیح پر حاوی ہے

اور ۲۳ سطر ہیں، یہ عبارت درج ہے:

"اس پورے صحیح کی ساعت کی گئی اور یہ صحیفہ، صحیفہ ہمام بن منبہ ہے، شیخ فقیہ امام عالم تاج الدین بہاء المسلمين (بدیع الزمال) /ابو عبد اللہ محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن ابو الحسن مسعودی بندھی خراسانی نے، اللہ ان کے ہر کام کا نجام اچھا کرے اس اصل سے [.....]/ انہوں نے نقل کر کے ہم کو پڑھ کر سنایا جو مدرسہ ناصریہ صلاحیہ میں ہے، اللہ اس مدرسہ کے وقف کرنے والے کے ملک کو ہمیشہ باقی رکھے جو دمیاط کی سرحد میں ہے اور اللہ اس کی حفاظت کرے، امراء اور سادات الفقیہاء عماد الدین ابو طاہر اسماعیل بن امیر ظہیر الدین ابو الحسن بن امیر ناصر الدولہ مذکورہ سرحدی جنگ کے غیران کار آج کے دن اور [.....]/ امیر جمال الدین ابوالفضل موسیٰ اور فقیہ اجل امام العالم فخر الدین ابو بکر بن وصلی بن مام بن جرب المارابی [.....]/ مذکورہ سرحد کے مدرسہ کے مدرس اور بہت زیادہ قابل عزت قاضی ابو محمد عبد السلام بن جماعہ بن عثمان، اور عثمان تنیسی کے فرزند، اور معتمد [.....]/ عبد الغنی بن اسماعیل بن ابراہیم، اور ان کے فرزند ابوالمحتضر عبد العزیز اور فلسف (؟) ابو علی حسن بن قاضی جلال الدولہ ابو البرکات عبید [.....]/ بن احمد، اور ان کے فرزند ابوالفضل محمد، اور ان کے خاص بھائی ابو محمد عبد العزیز، اور فقیہ ابو محمد عبد الباقی بن جعفر تنیسی اور ابو [.....]/ ناصر بن صحماصم بن سباع مودب، اور ابو الحسن علی بن معالی بن علی دمیاطی (؟ دمیاطی)، اور فقیہ خطیب ابوالقاسم عبد الرحمن بن [.....]/ بن عبد الرحمن دمیاطی، اور امیر الملک ابوالبرکات عبد

الرَّحْمَنُ مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ دِمِيَاطِيٍّ، وَأَوْعِيفِيْفُ أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ قَاضِيٍّ [.....]/ابو البرکات محمد بن سليم، اور عبد الواحد بن اسلیل بن طافر دمیاطی، اور عبد اللہ بن ابی الحسن بن علی بن ابو رجاء اور (القاضی) ابو علی حسن بن قسم بن عتیق(?) تنسیسی، اور عبد الرحمن بن احمد بن عبد الوهاب دمیاطی، اور صفائی الدین ابو الفتح نصر الدین، مظفر بن جلال الرجبي، اور فتح الدین عمر بن حنیف بن احمد تنسیسی، اور ان کے دو بیٹے محمد و عبد الرحمن اور ابو الفتح محمد بن عبدا[.....]/بن احمد اور حفص ابو محمد عبد اللہ بن قاضی ضیاء الدین ابی القسم هبة اللہ بن احمد، اور عبد الوهاب بن محمد بن عبدا[.....]/اور ابو الفضل طلحہ بن قاضی تنسیس ابو المعالی محمد بن حذیفہ دمیاطی اور رضی ابوعفضل رضوان بن سلمہ مصری اور[.....]/بن عبد اللہ الناصر، اور ابو الحرم مکی بن ابو نصر فتح بن رافع مصری، اور ابو الفضل مرتضیا بن ابی الحسین محمد بن علی ال[.....] تنسیسی ماکنی، اور عبد الغنی بن عبد الرحمن بن صدقہ حلی دمیاطی، اور ابو المنصور اور ابو الحسین قاضی[.....] کے فرزند اصالح بن ابی کثیر، اور ناصر بن سالم بن ناصر، اور نصر بن کریم بن علی، اور منصور بن علی بن حجاج (دمیاطی اور ابو الحرم مکی)[بن.....]/بن الحکاوی اسرار المقری، اور ابو عمران موسی بن محمد بن محمد دربندی، اور ابو الحسن علی بن احمد بن طاهر المؤذن[اذن]/اور ان کے دو لڑکے محمد اور عبد الوهاب، اور مؤذن مذکور کے بھائی، اور فقیہ نجیب ابو منصور فتح بن محمد بن علی بن خلف شافعی،[.....]/اور ان کے دو لڑکے محمد اور عبد اللہ، اور مسعود فقیہہ مدرس مذکورہ بالا کے مملوک، اس ساعت کا کاتب اور اس جزا کا مالک عبد[فقیر]/

عبد الرَّحْمَنُ بْنُ حَمَّادَ بْنُ بَرْكَاتِ شَافِعِيِّ اللَّهِ تَعَالَى كَيْ حَمَدَ كَرَتَاهُ إِوْرَیَہ ۲۶ ذِی
قُعْدَه سَنَتٍ اُوْرَسْتَرٌ] اُوْرَپَانِجُ سُو (۲۷۵ھ) میں لکھا گیا، اور ان تمام طلبہ
کے لئے یہ قرأت ساعت صحیح ہے۔ والحمد لله وحده وصلوته على
محمد وآلہ وسلمہ (تمام تعریف خداۓ واحد کے لئے سزاوار ہے اور
محمد علیہ السلام اور آپ کی آل پر اس کی رحمت اور سلامتی ہو) اس میں محمد
بن (?) سے الخاق ہے۔“

اور اس کے نیچے ایک لکیر ہے اور لکیر کے نیچے یہ لکھا ہے:
”مجھ سے ان کی ساعت کی صحت ہوئی اور اس کو محمد بن عبد الرحمن بن محمد
مسعودی نے لکھا۔ وَلَلَّهِ الْحَمْدُ۔“

(۵) وعلى الورقة . ۱ / ب سماعات. أولها: ”سمع جميع هذا الجزء
من أوله إلى آخره على الشیخة الصالحة الصینیة أم الفضل کریمة
بنت الشیخ الأمین / نجم الدین عبدالوهاب بن علی بن الحضرو
القرشیة الزبیریة الأسدیة صان اللہ قدرها باجازتها/ من الشیخ
الأصیل أبي الخیر محمد بن الباعنان (؟) عن الإمام [۱] بن منبه
بقراءة الإمام العالم الفاضل / جمال الدین أبي العباس احمد بن ابی
الفضائل ابن ابی المجد الدخیمی نفعه اللہ، عمر بن محمد بن
منصور / الأمینی. وهذا خطه عفا اللہ عنہ. وصح وثبت يوم الثلاثاء
سابع عشر شهر ربیع الأول سنة / ثلاثة وعشرين وستمائة بمنزلتها
عمر بطول بقائها من درب المسک بدمشق. والحمد لله حق
حمدہ“.

(۵) ورقہ اب پر بھی ساعتیں درج ہیں سب سے پہلے یہ ساعت ہے:
 ”یہ پورا جز شروع سے آخر تک شیخہ صالح پاک باز خاتون ام الفضل کریمہ
 بنت شیخ امین / محمد الدین عبد الوہاب بن علی بن خضر قریشہ زیریہ اسدیہ ہمان
 اللہ قادر ہاپر ان کی اس اجازت سے سنائیا جو شیخ اجل ابوالخیر محمد بن الباعن
 (۶) سے ہے وہ امام [۱] بن مندہ سے امام عالم فاضل / جمال الدین ابوالعباس احمد
 بن ابوالفضائل بن ابوالججد خمیسی نفعہ اللہ، عمر بن منصور امینی کے پڑھنے
 سے روایت کرتے ہیں اور یہ ان کا خط ہے۔ عقال اللہ عنہ، اور بروز سہ شنبہ ۷ ماہ
 ربیع الاول سنہ ۲۲۳ھ ام الفضل کریمہ کے گھر میں صحت کی گئی اور اجازت
 ثبت ہوئی، اللہ ان کے گھر کو جو داشت میں درب المک میں ہے ان کے وجود
 سے بہت دن آبادر کھے والحمد للہ حق حمدہ۔“

(۶) وتحته بخط اندلسی علی ید البرزازی الإشیلی : ”سمع جميع هذه
 الصحيفة على الشيخ الأجل المقرئ ابی عبد الله محمد بن ابی /
 بکر بن محمد البلخی لسماعه فيه صاحبها السيد الأجل العالم النبی
 المتقن / ثقة المحدثین کمال الدین ابو العباس احمد بن ابی
 الفضائل بن ابی المجد بن الدخميی وفقہ اللہ وایا / وفقہاء
 نجیب الدین ابو الفتح نصراللہ بن ابی العز بن ابی طالب الصفار،
 وابو محمد عبد الواحد / بن عبد السید بن ابی البرکات الصقلی،
 وابراهیم بن عبد اللہ بن [؟ عثمان، غسان] المازوی المغریبی،
 ومحمد بن یوسف بن محمد البرزازی الإشیلی بقراءته وهذا خطہ
 يوم الأربعاء الثالث عشر من شهر جمادی الآخرة سنة ثلاث

وعشرين وستمائة بزاوية ابن عروة من جامع / دمشق حماها اللہ
 والحمد للہ وحده وصلاته علی نبیہ محمد وسلامہ۔“

(۷) اور اس کے نیچے اندلسی خط میں شیخ برزانی اشیلی کے ہاتھ سے یہ لکھا ہوا ہے:
 ”یہ پورا صحیفہ شیخ اجل مقری ابو عبد اللہ بن ابی / بکر بن محمد بلخی پر پڑھ کر سنایا
 گیا۔ اس میں اس کے مالک سید اجل عالم نبیہ متفقہ الحمد میں کمال الدین
 ابوالعیاس احمد بن ابی الفضائل بن ابی الحجج بن دخیسی، اللہ انہیں اور مجھے
 توفیق دے، کی / ساعت ہے۔ اور فقهاء نجیب الدین ابو الفتح نصراللہ بن ابی
 العز بن ابی طالب الصفار، اور ابو محمد عبد الواحد، / بن عبد السید بن ابی البرکات
 صقلی، اور ابراہیم بن عبد اللہ بن [؟ عثمان، غسان] مازوی مغربی / اور محمد بن
 یوسف بن محمد برزانی اشیلی کی قرأت ہے اور ان کا یہ خط چہار شنبہ کے دن
 ۱۳ ماہ جمادی الآخرہ ۲۲۳ھ کا ہے جامع / دمشق میں ابن عروہ کے زاویہ میں لکھا
 گیا ہے، اللہ اس شہر کی حفاظت کرے۔“ والحمد للہ وحده وصلاته علی
 نبیہ محمد وسلامہ۔“ (خدائے واحد کے لئے تمام تعریف سزاوار ہے اور
 اس کی رحمت اور سلام اس کے نبی محمد پر ہو)

(۷) وتحته سمعان نصہ: ”سمع جميع هذه الصحيفة على الحافظ ابی
 محمد عبد القادر بن عبد اللہ الرهاوی نحو(؟ بحق) سمعاء / من
 ابی الفرج مسعود بن الحسن الصیفی عن عبد الوہاب بن محمد
 بن یحیی بن مندہ عن ابیہ محمد / بقراءة اسماعیل بن ظفر
 النابلسی، یحیی بن [ا] بی منصور ابن [ا] بی الفتح الصیرفی فی
 آخرين / منهم مثبت الأسماء ابو منصور ابن [ا] بی الفضل ابن [ا]

بی محمد البغدادی وذلک فی شهر ربیع الأول سنة تسع وستمائة
نقله من خطه مختصرًا علی بن محمد بن عمر بن هلال الأزدی(?)
الأزدی(?)”。 لعل المراد سنة ۶۲۹ أو بعدها الى ۶۶۹ فان هذا
السماع بعد سماع البرز الى من سنة ۶۲۳، فلا يكون من ۶۰۹
كما في النص. والسماع التالي من ۶۷ من نفس الشيخ
الراہوی.

(۷) اور اس کے پچھے ایک ساعت ہے، اور اس کی عبارت یہ ہے:

”یہ صحیفہ حافظ ابو محمد عبد القادر بن عبد اللہ رہاوی پڑھ کر سنایا گیا، ابو الفرج
مسعود بن حسن صنی کی ساعت / کے مانند(؟ یا کما حقہ ساعت)، وہ عبد الوہاب
بن محمد بن یحییٰ بن مندہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے باپ محمد
سے / اسے علی بن ظفر نابلسی، یحییٰ بن [ا]ابی منصور بن [ا]ابی الفتح صیری کی
قرأت سے ان کے آخری لوگوں میں ابو منصور بن [ا]ابی الفضل بن [ا]ابی محمد
بغدادی کے نام ہیں۔ اور یہ ماہ ربیع الاول / ۶۰۹ھ میں لکھا گیا۔ اس کو مختصر طور
پر اپنے خط سے علی بن محمد بن عمر بن هلال الأزوی(?) الأزوی(?) نے نقل
کیا۔--- شاید ۶۲۹ یا اس کے بعد ۶۶۹ھ تک مراد ہے کیونکہ یہ ساعت
۶۲۳ھ میں برزا کی ساعت کے بعد ہے لیکن ۶۰۹ھ نہیں ہو سکتا جیسا کہ
اصل عبارت میں ہے اور اس کے بعد جو ساعت ہوئی ہوئی ہے ۶۷ میں شیخ
راہوی کی ذات سے ہے۔

(۸) وتحته سماع وهو آخر السماعات، مانصه : ”قرأت جميع هذا
الجزء على الشيخ الإمام العالم العامل مفتى المسلمين أبي زكريا

یحییٰ ابن / ابی منصور بن ابی الفتح الصیری فی الجراز، عرضًا بأصل
سماعه من ابی محمد الراہوی بسنده / فسمعنی صاحبہ الصدر
الجلیل نجم الدین أبو الحسن علی بن عماد الدین محمد بن عمر بن
هلال / الأزدی، وعماد الدین عبد المحسن بن محمد بن احمد بن
هبة الله بن ابی جرادا(?)، وعبد الرحمن / ومحمد ابنا عماد الدین
محمد بن عبد الغفار بن عبد الخالق الانصاری، ومحمد بن الشیخ
ابراهیم بن / محمد القرمشک(?) وجلال الدین ابراهیم بن اسماعیل
بن مبارک الحلی وآخرون علی / الأصل. وصح وثیت عشیة يوم
الاثنين سادس ذی حجه سنة سبعین وستمائة وكتب عبد الرحمن
بن خمیس(?) بن یحییٰ بن محمد القرشی عفا الله عنه حامداً
للّه و مصلیاً۔

وبه تمت المخطوطة

(۸) اور اس کے پچھے ایک ساعت ہے اور وہ آخری ساعت ہے، اس کی عبارت یہ
ہے: ”میں نے اس تمام جزء کو شیخ امام عالم، عامل مفتی مسلمانان ابو زکریا
یحییٰ بن / ابی منصور بن ابی الفتح صیری فی الجراز کو ابو محمد رہاوی کی اصل ساعت ان
کی سند سے پیش کرتے ہوئے پڑھ کر سنایا / اپس مجھ کو ان کے دوست صدر
جلیل نجم الدین ابو الحسن علی بن عماد الدین محمد بن عمر بن هلال / الأزدی نے
پڑھتے ہوئے سناء، اور عماد الدین عبد الحسن بن محمد بن احمد بن پیغمبر اللہ بن ابی
جراد(?) اور عبد الرحمن / اور محمد جودونوں عماد الدین محمد بن عبد الغفار بن
عبد الخالق الانصاری کے بیٹے ہیں، اور محمد بن شیخ ابراهیم بن / محمد القرمشک(?) اور

جالال الدین ابراہیم بن اسماعیل بن مبارک طبی اور دوسرے لوگوں نے اصل سے سناء دوشنبہ کی رات ۶ ذی جمادیہ کو صحیح کی گئی اور ثابت ہو گی، اور عبدالرحمن بن خمیس (?) بن یحییٰ بن محمد القرشی، اللدان کے گناہوں کو معاف کرے، اللہ کی حمد کرتے ہوئے اور درود بھیجتے ہوئے لکھا۔“

اور اس کے ساتھ مختلط ختم ہو جاتا ہے۔

مخطوطۃ برلین

نقل کاتب نسخة برلین ما وجد فی آخر المنقول منه. وهو

کمالی: "صورة السماع:

"الحمد لله قرأت جميع هذه الصحيفة على جدی شیخ الاسلام الخطیبی الجمال ابی محمد عبد الله بن جماعة ادام الله رفعته، واجیز به عن العلامہ ابی اسحاق ابراهیم بن احمد بن عبد الواحد الشافعی، إجازة عن القاسم بن محمود ابن مظفر بن عساکر، وابی نصر محمد بن محمد بن محمد ابن هبة الله بن ممیل (؟ جهبل) إجازة ، قال : أنا ابو الوفا محمود بن ابراهیم ابن منده إجازة إن لم يكن سماعاً، أنا أبو الفرج مسعود بن الحسن الشقی کذلک، أنا ابو عمرو عبد الوهاب ابن منده بسنده أول الجزء، فسمعه سیدی والدی الخطیبی الاء مامی العالم ابو اسحق ابراهیم بن المسمع، وأخواه شرف الدین موسی وبدر الدین محمد، والأخوان: العلامہ نجم الدین محمد ومحب الدین احمد، والفضلاء: زین الدین عبد الکریم بن ابی الوفا، وشمس الدین محمد بن الجمال یوسف بن الصفی، وزین الدین عبد الرحمن ابن احمد بن غازی، وعلاء الدین علی بن خلیل بن باقیس، وبرهان الدین ابراهیم بن القاضی تاج الدین عبد الوهاب بن قاضی الصلت، وغرس الدین خلیل بن القاضی شہاب الدین احمد بن قطیبا، وعلی بن الحسن بن الوزان. والمسمع اجازهم لا فظاً. وصح

ذلك وثبت نهار الأحد الخامس عشر من ربيع الأول من سنة ۸۵۶، قاله وكتبه اسمعيل بن جماعة حامداً مصلياً مسلماً محلاً. وتحته بخط اغلوظ منه ما صورته: صحيح ذلك كتبه عبد الله بن جماعة غفر الله له“.

مخطوطہ بر لین کی سماعتیں

نحو بر لین کے آخر میں اس کاتب کی عبارت اس طرح درج ہے:

”سماعت کی صورت:

”الحمد لله میں نے اس تمام صحیفہ کو میرے دادا شیخ الاسلام خطیبی جمال ابو محمد عبد اللہ بن جماعہ کو پڑھ کر سنایا، اللہ ان کی رفتت کو ہمیشہ قائم رکھئے اور علامہ ابو سحاق ابراہیم بن احمد بن عبد الواحد شافعی سے اس کی اجازت حاصل کی گئی، ان کو قاسم بن محمود بن مظفر بن عساکر اور ابو نصر محمد بن محمد پیغمبر اللہ بن مسیل (? جھبل) کی ایک اجازت حاصل ہے، انہوں نے کہا: ہم کو ابوالوفا محمود بن ابراہیم بن مندہ نے اجازت کی خبر دی اگرچہ کہ سماعت نہ ہو، ابو الفرج مسعود بن حسن ثقفی نے اسی طرح ہم کو خبر دی، ابو عمر عبد الوہاب بن مندہ نے ہم کو ان کی سند سے پہلے جزکی خبر دی، پھر ان سے میرے سردار میرے والد خطیبی امامی عالم ابو سحاق ابراہیم بن مسمع اور ان کے دو بھائی: شرف الدین موسیٰ و بدر الدین محمد اور دوست: علامہ شجم الدین محمد و مجتبی الدین احمد اور فضلاء: زین الدین عبد الکریم بن ابی الوفاء اور شمس الدین محمد بن جمال یوسف بن صفائی اور زین الدین عبد الرحمن بن احمد بن غازی اور علاء الدین علی بن

خلیل باقیس اور برہان الدین ابراہیم بن قاضی تاج الدین عبد الوہاب بن قاضی صلت اور غرس الدین خلیل بن قاضی شہاب الدین احمد بن قطیباً اور علی بن حسن بن وزان نے سنا اور سننے والے نے ان سب کو زبان سے اجازت دی، اس کی صحت اور ثبت، اجازت یکشنبہ کی صحیح ۵ اربعین الاول ۸۵۲ھ کو ہوئی، اسمعیل بن جماعہ نے اس کو [اللہ کی] حمد کرتے ہوئے اور [اس کے رسول پر] درود وسلام صحیح ہوئے اور حسین بن اللہ نعم الوکیل کہتے ہوئے کہا اور لکھا۔“

اور اس کے نیچے اس سے زیادہ موٹے خط سے لکھا ہوا ہے، جس کی عبارت یہ ہے: ”یہ صحیح ہے کہ اس کو عبد اللہ بن جماعہ غفران اللہ نے لکھا۔“

(ب) عہد نبوی ﷺ کی لکھائی کے سلسلے میں حضرت سلمان فارسیؓ قابل ذکر ہیں، بعض ایرانی لوگ مسلمان ہوئے اور فارسی میں نماز پڑھنے کی عارضی اجازت مانگی تھی، حضرت سلمانؓ نے سورہ فاتحہ کا فارسی ترجمہ کر کے انہیں بھیجا تاکہ عربی عبارت حفظ ہونے تک نماز میں اسے پڑھا کریں^(۱)۔ اور یہ ترجمہ جناب رسالت آب ﷺ کی اجازت سے ترجمہ کر کے بھیجا گیا^(۲)۔

(ج) عہدہ دار جو عہد رسالت میں کتابت کا کام انجام دیتے تھے:

مدینہ (یثرب) میں رسول کریم ﷺ کی آمد کے وقت زانج کی کیفیت تھی، رسالت آب ﷺ نے وہاں ایک شہری و فاقی مملکت قائم کی ایک تحریری و ستور مرتب فرمایا۔ دس سال کے اندر یہ مملکت بڑھتے بڑھتے دس لاکھ مرلع میل پر پھیل گئی۔ عہد رسالت میں دفتری تنظیم اور شعبہ واری تقسیم عمل کا جوانہ نظام تھا اور حکومت کی مشتری جس کار کر دی گئی سے حکومتی کار و بار انجام دیتی تھی اس کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں صرف اتنا اشارہ کافی ہے کہ قرض کے وثائق اور دستاویزات لکھنے کے لئے الگ عہدہ دار، محصل زکوٰۃ کی آمدنی لکھنے کے لئے الگ، ججاز کی آمدنی کا تخمینہ (بجٹ، موازنہ) لکھنے کے لئے الگ، خارجہ تعلقات اور بیرونی مملکتوں کے حاکموں سے خط و کتابت، مراسلے، خطوط لکھنے کے الگ، فارسی، رومی، عبرانی، قبطی اور جهشی زبانوں

(۱) "روی أن الفرسَ كتبوا إلى سلمانَ أن يكتب لهمُ الفاتحة بالفارسية، فكانوا يقرؤن ذلك في الصلاة حتى كانت الستهم للعربية" (مبسوط سرخسی جلد اول کتاب الصلاة ص ۳۷)

(۲) تفصیل کے لئے دیکھئے فرید و جدی کی تالیف الادلة العلمية على جواز ترجمة معانی القرآن الى اللغات الاجنبية، مطبوعہ مصر صفحہ ۵۸، مکوٰۃ النهاية والبداية۔

بازیادہ

بھول چوک سے مبراہونا، یا ہر چیز کا ہر وقت علم رکھنا صرف خدائے علیم کو سزاوار ہے، زیادہ نہیں، چند میئنے ہی ہوئے کتاب ہڈامؤلف کے پاس سے مطیع گئی اور اپنی داشت میں یہ سمجھ کر گئی کہ حرف آخر ہے اور کوئی لمحہ یا اضافہ فی الحال ممکن نہیں، مگر ان چند مہینوں ہی میں اتنے کچھ نئے محاود یا مسائل سے آگاہی کا موقع ملا کہ کتاب کا مقدمہ خود مؤلف کو اب طلاقانہ معلوم ہو رہا ہے، علماء کی نظر وہ میں تو اس سے بھی اس کی کمیاں ہو گی۔

پروف تومؤلف دیکھنے سکا لیکن اسے اطلاع ملی ہے کہ کتاب پوری طرح چھپ چکی ہے، مجبوراً اس بازیاد کے ذریعے سے ناظرین کی خدمت میں چند باتیں عرض کر دی جاتی ہیں:

(الف) کتابت احادیث کا مواد کافی جامعیت کے ساتھ مندرجہ، خطیب بغدادی کی کتاب تقيید العلم، اور رامہر مزدی کی کتاب المحدث الفاصل میں ملتا ہے، میں نے ۱۹۳۲ء میں تقدیم العلم برلن میں پڑھی تھی۔ اب وہ دمشق میں چھپ گئی ہے اور ناشر نے اس کی حدیثوں کے اسنادات کی عدمہ جانچ پڑتاں کی ہے۔ المحدث الفاصل کے مؤلف کی وفات ۱۹۴۰ء کے لگ بھگ ہوئی، غالباً یہ ابھی چھپی نہیں ہے۔ میں اس کتاب سے موجودہ (۱۹۷۵ء) قیام استنبول کے زمانہ میں واقع ہوا ہوں۔

کے خطوط کا ترجمہ کرنے کے لئے الگ اور پیشی مبارک کا کام انجام دینے کیلئے الگ الگ عہدہ دار (افسر) مقرر کئے گئے تھے، جہاں گرد سیاح اور سورخ مسعودی کی کتاب سے ایک حوالہ بے جانہ ہو گا:

”جو کتاب رسول اللہ ﷺ کے رو برو ہوتا ہی لکھتا بھی تھا۔“

”خالد بن سعید بن العاص پیغمبر کے کاتب تھے، ہر قسم کے کام جو آں حضرت ﷺ کو پیش آتے سب میں وہی کتابت کرتے تھے۔“

”مغیرہ بن شعبہ اور حصین بن نمیر یہ دونوں صاحب، آں حضرت ﷺ کی ضروریات لکھتے تھے۔“

”عبد اللہ بن ارقم اور علاء بن عقبہ، یہ دونوں صاحب، قرض کے دشیق، دستاویزیں، ہر قسم کے شرائط اور معاملات کے کاتب تھے۔“

”زبیر بن العوام اور حمیم بن الصلت، یہ دونوں صاحب، زکوٰۃ کی آمدی اور صدقات کے کاتب تھے۔“

”خذیفہ بن یمان، حجاز کی آمدی کا تجہیز (موازنہ) لکھتے تھے۔“

”معیقب بن ابی فاطمہ، رسول اللہ ﷺ کے مال غنیمت کی کتابت کرتے تھے اور اسی خدمت پر آں حضرت علیہ السلام کی جانب سے مامور تھے۔“

”حضرت زید بن ثابت النصاری، بادشاہوں کو (من جانب رسول اللہ ﷺ) خط لکھتے تھے اور حضور نبوی میں خطوط کا جواب دیتے تھے، ان کا یہ بھی کام تھا کہ فارسی، روپی و قبطی و جبھی زبانوں کے خطوط کا رسول اللہ ﷺ کے لئے ترجمہ کرتے، ان زبانوں کے جو لوگ اہل زبان تھے زید بن ثابت نے ان ہی سے مدینہ میں یہ سب زبانیں سیکھی تھیں۔“

”خظلہ بن ریبع، حضور نبوی میں جب ان کا تبوں میں سے کسی شعبہ کا کوئی کاتب موجود نہ ہوتا تو ان کے خاص فرائض میں یہ ان سب کی نیابت کرتے تھے اور ان کا کام آپ انجام دیتے تھے، یہ خظلہ کاتب کے نام سے مشہور تھے.....“
”شر حبیل بن حکیم طاجی نے بھی آں حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتابت کی۔“

”ابان بن سعید اور علاء بن الحضر می، ان دونوں صاحبوں نے بھی کبھی کبھی پیشگاہ نبوی میں کتابت کی ہے۔“

”رسول اللہ ﷺ کی رحلت سے چند ماہ پیشتر معاویہ نے بھی آں حضرت صلوات اللہ علیہ کی کتابت کی تھی۔“

”رسول اللہ کے کاتبوں میں ہم نے صرف ان ہی صاحبوں کے نام لکھے ہیں جو مستقل طور سے آپ کے پاس کتابت کرتے رہے۔ اس فرض کے او اکرنے میں مشغول تھے، ایک مدت دراز اس میں بس رکی اور ان کی کتابت کے متعلق صحیح روایتیں بھی وارد ہیں، وہ لوگ جنہوں نے فقط ایک دو تین خطوط لکھے تھے، ان کے نام نظر انداز کر دیئے کیونکہ کہ اتنی سی بات پر وہ کاتب کہلانے کے مستحق نہ تھے اور کاتبان حضرت نبوی کے ذیل میں ان کا شمار ممکن نہ تھا۔“^(۱)

مورخ ابن اثیر الجزری نے بیان کیا ہے کہ ”حضرت عثمان اور حضرت علی“ بھی رسول اللہ ﷺ کی کتابت کیا کرتے تھے اور سب سے پہلے ابی بن کعب نے آپ کی کتابت کا کام انجام دیا تھا۔^(۲)

(۱) مسعودی: التنبیہ والاشراف ص کاتبان حضرت نبوی ﷺ

(۲) ابن الاتیر الجزری: تاریخ الکامل ج ۲ ص ۱۵۱ ذکر من کان یکتب لرسول اللہ ﷺ

(د) حضرت کعب بن مالک^(۱) لکھا پڑھنا جانتے تھے اور شاہ غسان نے انہیں ایک خط بھیجا تھا اور اپنے ہاں مرد عوکیا تھا^(۲)۔

(ه) مشہور صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتعہ، جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا، لکھنا پڑھنا جانتے تھے فتح مکہ سے پچھے پہلے کا واقعہ ہے کہ ”حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے، زیر بن العوام اور ابو مرثیہ ہم تینوں کو جو گھوڑے سوار تھے بھیجا کہ تم روپہ خان نامی مقام (جو مدینہ منورہ سے بارہ میل تھا) پر جاؤ:

فَإِنْ فِيهَا امْرَأَةٌ مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِبَ بْنِ ابْيِ بَلْتَعَةِ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَاتُونِي بِهَا..... وَكَانَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَةَ بَعْسِيرٍ رَسُولُ اللّٰهِ

دہاں ایک عورت ملے گی اس کے پاس حاطب بن ابی بلتعہ کا ایک خط ہے جو (مکہ کے) مشرکین کے نام ہے تم وہ خط اس سے لے آؤ..... حاطب نے اہل مکہ کو لکھا تھا کہ رسول اللہ ﷺ (فوج لے کر) آنے والے ہیں۔

پیام رسال عورت گرفتار کی گئی اور خط برآمد ہوا، حاطب بن ابی بلتعہ نے اقرار کرتے ہوئے معقول وجوہ کے ساتھ اپنی برأت پیش کی اور جب حقیقت حال واضح ہو گئی تو رسول اللہ ﷺ نے غفوور گزر سے کام لیا^(۳)۔

(۱) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو بخاری ج ۸۸ آنکہ المغازی باب: حدیث کعب بن مالک نیز بخاری ج ۹۹ آنکہ الشیر، سورہ توبہ۔

(۲) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو بخاری ج ۲۸۴ آنکہ استایۃ المرتدین۔ نیز سیرۃ ابن بشام و تاریخ طبری بر موقع۔

(و) عہد صحابہ میں حضرت ابن عمر^(۱) بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو خطوط کے جواب میں رسول اکرم ﷺ کی حدیثوں کو لکھ کر بھیجا کرتے تھے^(۲)۔ اس سلسلے میں ہمارے ہم عصروں کی امام بخاری^(۳) نے کیا خوب چکلی لی ہے کہ فرماتے ہیں: عن ابن عباس رضی اللہ عنہ: انی لأری لجواب الكتاب حَقًا كرَدَ السلام،^(۴) خط کا جواب دینا تھا! واجب ہے جتنا کسی کے سلام کا جواب دینا!

(ز) حضرت عمر^(۵) اور ان کی بہن فاطمہ^(۶) ان کے شوہر سعید بن زید اور ان کے دوست حباب بن الارث^(۷) مدنی زندگی ہی میں نہیں بلکہ رسول اللہ ﷺ کی بالکل ابتدائی کمی زندگی میں بھی لکھا پڑھنا جانتے تھے، حضرت عمر^(۸) بھی مشرف بہ اسلام نہیں ہوئے تھے، ایک دن اپنی تلوار حمال کے ہوئے رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کی ایک جماعت کے پاس جانے کے ارادہ سے نکلے، راستہ میں انہیں معلوم ہوا کہ ان کی بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے ہیں تو ان کی طرف جانے کا رادہ کر کے لوئے:

”عِنْدَ هُمَا خَبَابُ بْنُ الْأَرَاثِ مَعَهُ صَحِيفَةً فِيهَا طَهْ يُقْرُوُ
هُمَا.....

ان دونوں کے پاس حباب بن الارث تھے اور ان کے ساتھ ایک کتاب تھی وہ ان دونوں کو پڑھا رہے تھے.....

ان لوگوں نے عمر^(۹) کے آنے کی آہت سنی تو حضرت حباب مکان کے کسی حصہ یا کمرہ کے اندر ورنی حصے میں چھپ گئے:

وَأَخَذَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْخَطَابِ الصَّحِيفَةَ فَجَعَلَتْهَا تَحْتَ
فَخْدِهَا،

(۱) بخاری: تاریخ بخاری، جلد رابع نمبر ۲۶۔

(۲) بخاری: تاریخ بخاری، جلد رابع نمبر ۲۸۔

میں شامل ہو گئے اور شمع رسالت کے نور سے اپنے کو منور کرنے لگے، پھر جب کہ مسے
بھرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ ”میں اور میرا انصاری پڑوںی
دونوں بنو امیہ بن زید کے گاؤں میں جو مدینہ کے قرب و جوار میں تھا رہتے تھے اور ہم
دونوں رسول اللہ کی خدمت میں باری باری سے آیا کرتے تھے:

فَإِذَا أَنْزَلْتُ جِئْنَةً بَعْدَ ذَالِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَصَّىٰ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا
أَنْزَلْتَ فَعَلَ مِثْلَ ذَالِكَ^(۱).

جس دن میں جاتا تو اس دن کی خبریں اور وحی اور دیگر باتیں آکر اس کو
بتلا دیتا اور جس دن کہ وہ جاتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا تھا۔

حضرت ابو بکرؓ کی رحلت کے بعد حضرت عمرؓ خلیفہ منتخب ہوئے تو صدیق اکابرؓ کی
طرح فاروق اعظمؓ کو بھی مملکت کے اہم مسائل کے حل میں عہد رسالت کے طرز
عمل اور عمل درآمد دریافت کرنے کی جگہ تھی اور انہی کی روشنی میں فصلے
صدر کرتے تھے^(۲)۔ اپنی خلافت کی ابتداء میں حضرت عمرؓ مجوسیوں سے جزیہ نہیں

(۱) بخاری ج ۱ کتاب العلم، باب التناوب فی العلم.

(۲) اسلامی قانون کا پہلا مأخذ قرآن مجید اور دوسرا مأخذ سنت نبوی، تیسرا مأخذ اجماع امت اور
پوتھماخذ رائے ایقیاس (ہم صورت ہم مکمل و اوقات سے کسی مسئلہ کا استنباط کرنا) ہے۔
اللہ کا جو پیغام رسول کریم ﷺ کو دی کے ذریعہ سے وصول ہوا تھا اسے آپ فوراً ایک ترتیب
سے لکھوا رہتے تھے اس کے مجموعے نے کتاب الشادر قرآن کا نام حاصل کیا،

قرآنی پیغام کی تشریع و توضیح اور اصلاح قوم کے سلسلہ میں ملک کے بہت سے اچھے اور معقول
قدیم رواجات کو آپ نے تبعین میں برقرار رہنے دیا یہ بھی اسلامی قانون کا بہت بڑا مأخذ ہے خاص کر اس لئے
بھی کہ قرآن مجید نے متعدد جگہ اس کا صراحت سے حکم دیا ہے کہ پیغمبر اسلام کا ہر قول و فعل اور ہر امر و نہی
واجب التعلیل اور لائق تقلید ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ سنت نبوی میں بھی صرف قانونی احکام ہی نہیں ہیں بلکہ
وہ مقدم کے امور بھی ملیں گے، قانونی احکام کچھ تو قرآنی اجہل کی تفصیل و تجھیل پر حاوی تھے تو کچھ ملکی

فاطمہ بنت الخطاب نے اس کتاب کو اپنی ران کے نیچے رکھ لیا،
حالانکہ عمرؓ جب گھر کے نزدیک آئے تھے تو انہوں نے خبابؓ کی قراءت سن لی
تھی:

وَقَالَ لِأُخْتِهِ: أَعْطِنِيْ هَذِهِ الصَّحِيفَةَ الَّتِيْ سَمِعْتُكُمْ تَقْرَأُنَّ
آتِنَا، أَنْظُرْ مَا هَذَا الَّذِيْ جَاءَ بِهِ مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَاتِبًا.....

اور انہوں نے اپنی بہن سے کہا: اچھا مجھے وہ کتاب دو جسے تم لوگ
پڑھ رہے تھے اور میں نے ابھی ابھی تمہیں پڑھتے سنائے، میں بھی تو
دیکھوں کہ وہ کیا چیز ہے جو محمد ﷺ نے آئے ہیں اور عمرؓ پڑھے لکھے
تھے.....

جب انہیں اسلام کی امید ہوئی تو کہا بھائی جان! آپ تو شرک کی نجاست میں
ہیں اور اس کتاب کو پاک شخص کے سوا کوئی دوسرا اچھو نہیں سکتا۔

فَقَامَ عُمَرُ فَاغْتَسَلَ فَاعْطَيْتُهُ الصَّحِيفَةَ وَفِيهَا طَه، فَقَرَأَهَا، فَلَمَّا
فَرَأَيْنَهَا صَدَرَ أَقَالَ: مَا أَحْسَنَ هَذَا الْكَلَامُ وَأَكْرَامُهُ^(۱).

عمرؓ اٹھ کھڑے ہوئے اور غسل کیا اور ان کی بہن نے ان کو وہ کتاب
دی اور اس میں طک کی سورہ تھی، انہوں نے اس کو پڑھا۔ جب اس کا
ابتدائی حصہ پڑھا تو کہا: یہ کلام کس قدر اچھا ہے اور کس قدر عظمت
والا ہے۔

غرض حضرت عمرؓ بھی مشرف بہ اسلام ہو گئے اور رسول اللہ کے جاں شاروں

(۱) ابن بشام: سیرۃ سیدنا محمد رسول اللہ درج اس قصہ اسلام عمر بن الخطاب، مطبوعہ گونجی
جر منی ۱۸۵۵ء۔

ذرا تفصیل سے بیان کیا ہے چنانچہ لکھتے ہیں کہ ”مسجد نبوی میں مہاجرین کی ایک مجلس تھی جس میں حضرت عمرؓ ان کے ساتھ بیٹھ کر دنیا بھر کے معاملات پر جوان کے پاس فیصلے کے لئے آیا کرتے تھے گفتگو کیا کرتے تھے، ایک دن انہوں نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مجوسیوں کے ساتھ کیا کیا جائے (اور وہ اہل کتاب بھی نہیں)؟ عباد الرحمن بن عوف نے کہا میں نے رسول کریم سے سن فرمایا کہ اسی قانون کے مطابق بر تاؤ کرو جو اہل کتاب کے لئے ہے^(۱)۔“

حضرت عثمانؓ کے عهد خلافت تک تو بے شمار لوگ تعلیم یافت ہو گئے اور اسلامی مملکت تین برابعہ اعظموں پر پھیل گئی اور حضرت عثمانؓ نے قرآن مجید کے نسخوں کو نقل

(۱) فتوح البلدان بزاری ص ۲۶، خود رسول مقبول ﷺ کو قرآن مجید میں 『وشاورهم غی الامر』 کی ہدایت ہوئی ہے، عهد نبوی میں جملہ انتظامی و سیاسی معاملات میں مشاورت پر جتنا زیادہ زور دیا جاتا تھا اس کے تذکرے سے احادیث کی کتابیں بہیں، پھر قرآن ہی میں صحابہ کرام کی شان میں بیان ہوا ہے کہ 『امْرُهُمْ شُورَىٰ بِنِهِمْ』 (ان کے تمام کام آپس کے مشورہ سے ہوتے ہیں) ابتدائی اسلام میں مسجد نبوی عمل پاریمان کا کام دینی تھی اور مجلس شورائے عام کا اجلاس وہی منعقد ہوتا تھا۔ بعض وقت اتم معاملات میں تعفیف کے لئے تمام لوگوں کے بجائے ان کے نمائندوں کو طلب کیا جاتا تھا، عہد رسالت میں ہو ہوازن کے مال اور جنکی قید یوں کی رہائی کا مسئلہ پڑیں آیا تو رسالت مأب ﷺ نے جسے عام میں لوگوں کی رائے معلوم کرنی چاہی لیکن لوگ بے شمار تھے ہر ایک کی رائے ٹھیک طور پر معلوم نہ ہو سکی:

قال : إِنَّا لَا نَنْدِرُ إِنَّمَ مِنْكُمْ مِنْنِي لَمْ يَأْذِنَ . فَارْجِعُوهُ حَتَّىٰ يَرْفَعَ عَرْقَاؤُكُمْ أَمْرُكُمْ

فَرَجَعَ النَّاسُ ، فَكَلَمْهُمْ عَرْقَاؤُهُمْ شَمَ رَجَعُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ طَيْبُوا وَأَذْلُّوا .

آپ نے فرمایا: ہم کو معلوم نہیں کہ تم میں کون راضی ہے اور کون راضی نہیں۔ تم اب جاؤ اور تمہارے نمائندے (عریف) تمہارا معاملہ ہم سے بیان کریں گے۔ پھر لوگ چلے گئے پھر ان کے نمائندوں نے اپنے لوگوں سے گفتگو کی پھر ان نمائندوں نے رسول اللہ کے پاس آکر عرض کیا کہ وہ لوگ راضی ہیں اور انہوں نے اجازت دی ہے۔

لیتے تھے یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس امر کی شہادت دی کہ رسول اللہ نے چھر کے مجوسیوں سے جزیہ لیا تھا^(۱)۔ مورخ بلاذری نے اس واقعہ کو اچھے رسم و رواج کے مختلف اجزاء کو برقرار رکھنے پر مشتمل تھے، پیش ہونے والے مقدمات کے فیصلے، روزہ روزہ لظم و نقش کا تذکرہ سر کاری حکام اور افسروں کوہدا بیتیں، خصوصی خلبات و اعلانات، غرض، میسیوں قسم کی چیزیں سنت میں ملی ہیں۔

لیکن یہاں سوال آئندہ کی ترقی کا ہے کہ مستقبل میں پیدا ہونے والے نامعلوم اور ان گزت میں مسائل سے دوچار ہونے پر کیا کیا جائے؟ اس بارے میں امام ترمذی وغیرہ نے پیغمبر اسلام ﷺ کی ایک حدیث متعدد ماذدوں سے روایت کی ہے کہ جب آپ نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو سر کاری افسر بنا کر روانہ کیا تو رخصتی یا باریابی میں حسب ذیل گفتگو فرمائی۔

”اگر کوئی مقدمہ پیش ہو تو کس طرح فیصلہ کرو گے؟“
”جیسا کہ کتاب اللہ میں حکم ہے“

”اگر کتاب اللہ میں صراحت نہ ہو تو؟“

”تو پھر رسول اللہ کی سنت کے مطابق“

”اگر سنت رسول میں بھی نہ ملے تو؟“

”تو پھر اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا“

”تعریف اس خدا کو سزاوار ہے جس نے اپنے رسول کے فرستادہ کو اس چیز کی توفیق دی ہے اس کا رسول پسند کرتا ہے“

یہ مکالمہ نہ تو کوئی کاغذی نظریہ ہمارا اور نہ ہی کوئی انفرادی واقعہ تھا، اہم معاملات میں استھواب، گرفتاری اور تصحیح کی تاگزیر ضرور توں کے ساتھ ساتھ وسیع صواب دید کا حق خود جناب رسالت مأب ﷺ کی طرف سے افسران قانون کے لئے تسلیم کر لیا جانا اور ایک دوسرے موقع پر انتم اعلم یا مور دنیا کم (تم لوگ اپنے دینیادی امور کو زیادہ بہتر جانتے ہو) ارشاد فرمائ کر اپنے خالص جمالياتی حکم کو منسوج کر دیا۔ ایک انتقامی لیکن فیصلہ کن نظیر تھی، جس کے باعث اسلامی قانون کے مستقبل نے اپنے متعلق کمکل اطمینان حاصل کر لیا (تفصیل کے لئے دیکھئے میری کتاب امام ابو حیینہ کی مذویین قانون اسلامی)

(۱) بخاری ح ۲۴۲ کتاب الجہاد میں مسلم و ترمذی ابواب المسیر۔

مخطوط میں دستیاب ہو گئی ہے اور اس طرح راویوں ہی کا نہیں ان کی تالیفوں کا سلسلہ بھی مکمل ہو گیا ہے چنانچہ مثال کے طور پر ہماری یہ حدیثیں امام بخاریؓ کے ہاں ملتی ہیں تو اس کے مأخذ:

امام بخاریؓ: کتاب الجامع الصحیح (مطبوعہ)

از امام محمد حنبل: کتاب المسند (مطبوعہ)

از عبد الرزاق بن ہمام بن نافع: المصنف (مخطوطات مدینہ منورہ، یمن و ترک، ہند، و سنده)

از مخمر بن راشد: صحیفۃ (مخطوط انقرہ)

از ہمام بن منبہ: صحیفۃ (یعنی کتاب حلذا)

دوسرے الفاظ میں امام بخاریؓ نے کوئی چیز من گھڑت اور جعل سازی کر کے نہیں لکھی بلکہ اسناد میں مأخذ و مأخذ کا جو سلسلہ دیا ہے وہ پورے کا پورا اواقعی و حقیقی بھی ہے اور اب تمامہ ہمارے سامنے آجائے سے ان کی صداقت کی جانچ بھی ممکن ہو گئی

ہے اور یہ سب کے سب سچے ثابت ہوئے ہیں اور کس شان کے ساتھ!

اور اسی پر قلم روکتا ہوں کہ رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین۔ فقط

استنبول (۵ ربیع الغوث ۱۴۰۷ھ)

محمد حمید اللہ

کروا کر اسلامی مملکت کے گوشہ گوشہ میں روشنہ کیا، اس سلسلہ میں امام بخاریؓ نے تو ایک دلچسپ باب ہی اپنی صحیح میں قائم کیا ہے کہ ”ایک ملک کے عالم دوسرے ملکوں کے عالموں کو علمی باقیں لکھ کر بیج سکتے ہیں۔“ اس سلسلے میں پہلے تو انہوں نے حضرت انسؓ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ:

نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الأفاق.

حضرت عثمانؓ نے بہت سے مصحف لکھوائے اور ان کو ملکوں میں پھجوایا۔

پھر یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
کتب لا ميرا لسريره كتاباً . و قال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان
كذا وكذا . فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم
بامر النبي ﷺ .^(۱)

ایک فوج کے سردار کو ایک خط لکھا دیا اور فرمایا: اس کو پڑھنا نہیں جب تک کہ تم فلاں مقام پر نہ پہنچ جاؤ۔ پھر جب وہ اس مقام پر پہنچا تو اس نے لوگوں کو وہ خط پڑھ کر سنایا اور رسول اللہ ﷺ کا حکم ان کو بتایا۔

پھر امام بخاریؓ نے مختلف حکمرانوں کو رسول اللہ نے جونا مے مبارک روشنہ کے تھے ان کی تفصیل بیان کی ہے۔

(ج) سب سے اہم قابل ذکر امر شاید یہ ہے کہ مخمرؓ کی تالیف بھی اب جامع انقرہ (ترکی) کے ”شعبہ سان و تاریخ و جغرافیہ“ کے ذیرہ اسے ایل صائب میں ایک

(۱) بخاری ج ۱ کتاب العلم، باب ما يذکر في المناولة و کتاب اهل العلم بالعلم الى البلدان۔

This argeement is made the 9th day of May, 1997 between Dr. Muhammad Hamidullah (the " Author" which expression where the context so admits shall also include Centre Culturel Islamique, USA, which is the sole executor or administrator of the Author) and Mr. Rashidullah Yacoob (Publisher).

I, as beneficial owner, authorize Mr. Rashidullah Yacoob to Publish the Urdu Edition of my book titled *Sahifah Hammam Ibn Munabbih* (the Work).

The Publisher will be responsible for copy - editing the Work and will give the Author an opportunity to read and correct the edited script prior to type-setting.

I warrant that :

- (a) I have the right to give the assignment contained in clause I above and to authorize publication of the Work;
- (b) publication of the Work will not give rise to any liability on the part of the publisher.

4. The authorship of the work will be acknowledged on the title page of the publication.

5. This agreement relates to only One thousand (1000) copies of the Urdu edition of the Work and not to my works generally or to works of a particular description.

6. It is certified that the transaction affected by this Assignment does not form part of any larger transactions or a series of transactions.


7. The Publisher shall not be entitled to assign this agreement.

8. The Author shall be entitled to receive without charge twenty five copies of the Work.


9. The Author reserves his right to revoke this agreement if the Publisher fails to publish the work within One year.

10. The Author reserves his right to assign his publication rights to other publishers at all times.


The Author shall receive NO Monetary compensation because the Work will be distributed as a free gift.A new contract must be negotiated if the Publisher decides not to distribute the Work as a free gift.



(Author)



(Rashidullah Yacoob, Publisher)



(Centre Culturel Islamique, USA)